

সহজ

উর্দু কি তেছরী কিতাব

(এমদাদিয়া লাইব্রেরী)

বাংলা উচ্চারণ, অনুবাদ ও শব্দার্থসহ

اردو کی تیسری کتاب

আল-কাউসার প্রকাশনী

পাঠক বন্ধু মার্কেট
৫০, বাংলাবাজার, ঢাকা।
ফোন : ৭১৬৫৪৭৭

ইসলামী টাওয়ার
১১, বাংলাবাজার, ঢাকা।
মোবা : ০১৭১৬৮৫৭৭২৮

প্রকাশক

মুহাম্মদ ব্রাদার্স

বাসা : ২১৭, ব্লক - ত,

(মিরপুর-১২, পল্লবী, ঢাকা)

সংশোধিত সংস্করণ

প্রকাশকাল : অক্টোবর ২০১০

মূল্য

একশত টাকা মাত্র

কম্পোজ

বাংলাযমীন কম্পিউটার

মুদ্রণ

বনফুল প্রেস

বাংলাবাজার, ঢাকা।

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
মুসলমানদের প্রতি আল্লাহ তা'আলার সম্বোধন	৫
আল্লাহ তা'আলার দরবারে মুনাজাত	১০
নবী করিম (সা)-এর পবিত্র জীবন	১২
নবী (সা)-এর স্বভাব চরিত্রের কয়েকটি উদাহরণ	
(গদ্য)	
দৃঢ়তা	২৮
উদরতা	৩০
ওয়াদা বা অঙ্গীকার রক্ষা করা	৩৪
উত্তম লেনদেন	৩৬
সত্য প্রকাশ	৩৮
ধৈর্য ধারণ	৪৫
বীরত্ব	৪৮
সরলতা এবং আড়ম্বরহীনতা	৫৪
(পদ্য)	
আমাদের নবী (সা) কি করেছেন	৫৯
তাওহীদের শিক্ষা	৬১
অত্যাচারিত ছাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ)	
হযরত বেলাল (রাযিঃ)	৬৫
হযরত খাব্বাব বিন আরাশ (রাযিঃ)	৬৭
হযরত আম্মার বিন ইয়াছির (রাযিঃ)	৬৮
হযরত সুহাইব (রাযিঃ)	৬৯
হযরত আবু ফকীহা (রাযিঃ)	৬৯
হযরত যুনায়েরা (রাযিঃ)	৭০
ইসলামের খলীফাগণ	
হযরত আবু বকর (রাযিঃ)	৭৩
হযরত ওমর (রাযিঃ)	৮১
খলীফা ওয়ালীদ বিন আবদুল মালেক	৯৩
হযরত ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহঃ)	৯৬

আদাব (রীতি-নীতি)

পড়ার নিয়ম-কানুন	১০১
লিখার আদব	১০৮
ইবাদতের আদব	১১৩
সমবেদনা	১১৯
আমরা প্রাণীদের থেকে কি শিখছি	১২০
বনগী পাখির করুণ আর্তনাদ	১২৫
চর্দ্দাশ হাদীস	১২৭

চরিত্র গঠনমূলক ঘটনাবলী

বুলবুল ও বাজ পাখি	১৪২
ইচ্ছার দুর্বলতা	১৪৬
একতার শক্তি	১৪৭
হযরত ইমাম আবু হানিফা (রহ.)	১৪৯
মুসলিম বাচ্চাদের গান	১৫৮
মুসলমান মেয়েদের গান	১৬০

صلى الله
عليه وسلم

৩৭	(ঃদীর্ঘ) চকচ চান্ড তহমস
৩৮	(ঃদীর্ঘ) চমচ তহমস
৩৯	বনবুগ জেহাদে লুকচান্ড নচী নচিয়ারে তহমস
৪০	ব্যাপক জেহাদ (ঃদীর্ঘ) তহমস লুকচান্ড নচী চান্ড তহমস

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ کا خطاب

موسلمانو! اللہ تعالیٰ کا خطاب

موسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا خطاب

مسلمانو! اللہ سے ڈرو، ایسا ڈرنا جو واقعی ڈرنا ہے۔ اور دیکھو!

موسلمانو! اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا جو واقعی ڈرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنا جو واقعی ڈرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنا جو واقعی ڈرنا ہے۔

دنیا سے نہ جاؤ مگر اس حالت میں کہ اسلام پر ثابت قدم رہو۔ اور

دنیا سے نہ جاؤ مگر اس حالت میں کہ اسلام پر ثابت قدم رہو۔ اور دنیا سے نہ جاؤ مگر اس حالت میں کہ اسلام پر ثابت قدم رہو۔ اور

دیکھو! سب مل جل کر اللہ کی رسی مضبوط پکڑ لو اور جدا جدا نہ ہو جاؤ۔ اللہ نے

دیکھو! سب مل جل کر اللہ کی رسی مضبوط پکڑ لو اور جدا جدا نہ ہو جاؤ۔ اللہ نے دیکھو! سب مل جل کر اللہ کی رسی مضبوط پکڑ لو اور جدا جدا نہ ہو جاؤ۔

تمہیں جو نعمت عطا فرمائی ہے اس کی یاد سے غافل نہ ہو۔ تمہارا حال یہ

تمہیں جو نعمت عطا فرمائی ہے اس کی یاد سے غافل نہ ہو۔ تمہارا حال یہ تمہیں جو نعمت عطا فرمائی ہے اس کی یاد سے غافل نہ ہو۔ تمہارا حال یہ

تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو رہے تھے۔ لیکن اس کے فضل

تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو رہے تھے۔ لیکن اس کے فضل تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو رہے تھے۔ لیکن اس کے فضل

شکارت : مسلمانو! - موسلمانوں کے لیے، واقعہ، - پرکرت، باسٹربک، ثابت قدم، - اٹل، ابیچل، مضبوط، - دھڑبھ، - غافل، - امانوہوگی، آپس، - آپس، پراسپر، - گرت، خاد، کنار، - تیر، پراسرندش۔

و کرم سے ایسا ہوا کہ بھائی بھائی بن گئے! تمہارا حال تو یہ تھا کہ آگ سے بھری

অ করম ছে এইছা ছয়া কে ভাই ভাই বন গায়ে! তুমহারা হাল তু ইয়ে থা কে আগ ছে ভারি
অনুগ্রহের অবস্থা এরূপ হয়েছে যে, ভাই ভাই হয়ে গিয়েছ। তোমাদের অবস্থা তো এমন ছিল যেন আগুন দ্বারা পরিপূর্ণ

ہوئی خندق ہے اور اس کے کنارے کھڑے ہو، ذرا پاؤں پھسلا اور شعلوں میں

ছয়ি খন্দক হে, আওর উস্কে কিনারে খাড়ে ছ, যরা পাও পিছলা আওর শু'লু মে
একটি গর্ত আর তারই প্রান্তে তোমরা দাঁড়িয়ে আছ সামান্য পা পিছলে গেলে অগ্নিকুণ্ডে

جاگرے۔ لیکن اللہ نے تمہیں اس حالت سے نکال لیا اور زندگی و کامرانی کے

জা গিরে। লেকীন আল্লাহ নে তুমহি ইস হালত ছে নিকাল লিয়া আওর যিন্দেগী অ কামরানী কে
গিয়ে পড়বে, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তোমাদের এ অবস্থা থেকে বের করে এনেছেন এবং জীবন ও সৌভাগ্যের

میدانوں میں پہنچا دیا۔ اللہ اس طرح اپنی کار فرمائيوں کی نشانیاں واضح کر دیتا

ময়দানুমে পুছচা দিয়া। আল্লাহ ইস ত্বরাহ আপনি কার ফরমাইয়ু কি নিশানিয়া ওয়াযেহ কার দেতা
ময়দানে পৌছে দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা এভাবে নিজ কর্ম পরিচালনার চিহ্নসমূহ সুস্পষ্ট করে দিয়ে থাকেন,

ہے، تاکہ تم منزل مقصود کی راہ پا لو۔ اور دیکھو! ضروری ہے کہ تم میں ایک

হে। তাকে তুম মনযিলে মাকসুদ কি রাহ পা-লু। আওর দেক্খু! জরুরী হে কে তুমমে এক
যাতে তোমরা গন্তব্যস্থল পেয়ে যাও। এবং দেখ! (এটা) খুবই দরকার যে, তোমাদের মধ্যে একটা

جماعت ایسی ہو جو بھلائی کی باتوں کی طرف دعوت دینے والی ہو۔ وہ نیکی کا

জমাআত এইছি ছ জু ভালাই কি বাতু কি तरफ दाওয়াत देने ওয়ালে ছ। ওহ নেকী কা
दल এমন হবে যারা ভাল কাজের দিকে দাওয়াত দিবে, ভাল কাজের

حکم دے بُرائی سے روکے، اور بلا شبہ ایسے ہی لوگ ہیں جو کامیابی حاصل

ছকুম দে বুরাই ছে রুকে, আওর বেলা শোবা এইছে হি লোগ হে যু কামিয়াবী হাসিল
আদেশ দিবে এবং খারাপ কাজে বাঁধা দিবে। আর নিঃসন্দেহে এ ধরনের লোকেরাই সফলতা

শব্দার্থ : ফলত - কারফরমায়ৌں। কর্ম পরিচালনা - কামরানী, গর্ত - আওনের গর্ত, শعلوں - ফসকে যাওয়া, পھسلا :
প্রতিদানে, বিনিময়ে, واضح - সুস্পষ্ট, منزل مقصود - লক্ষ্যস্থল, دعوت - আহ্বান, بلاشبہ - নিঃসন্দেহে,

کرنے والے ہیں۔ اور دیکھو! ان لوگوں کی سی چال نہ چلنا جو خدا کے ایک ہی

کارنے ویاہے ہے۔ آاور دہکھو! این لوگو کي کھ چال نا چلنا یو کھو دا کھ اکھہی
اؤرکنا کاری۔ آار دہکھ! ائسب لوکھہر پتھہ چلبہ نا، یارا آانلہا تہ آانلہار اکماؤر

دین پراکٹھے رہنے کی جگہ الگ الگ ہو گئے، اور باوجودیکہ کتاب اللہ کی

دین پور اکٹھہ راہنہ کي آاگگہ آانگ آانگ کھ گاہے۔ آاور باؤجودہکے کیتاہونلہا کي
دینہر اؤپر ائکابکھک تھاکار پوربوتھہ بیکھنکھو ہئے گہکھہ اہبگ یادیؤ آانلہا تہ آانلہار کیتاہہر

روشن دلیلیں ان کے سامنے آچکی تھیں، پھر بھی باہم دگر اختلافات میں

رؤشان دلہلیل اؤنکے سامنہ آاچکي تھي۔ فہر کھ باہام دہگار اہتہلہافاؤ مہ
سؤسپٹ دلہلیل تادہر سامنہ اہسہکھیل، تھاپي تارا پورسپور ماتانہکے

پڑ گئے۔ یقین کرو! یہی لوگ ہیں جن کے لئے کامیابی کی جگہ عذاب

پؤ گاہے۔ ایہا کین کراؤ! ایہا کي لوگ ہہ آین کھ لیکہ کامیہا کي کي آاگہ آاہاب
پتیت ہئےکھہ۔ بکشاس کور۔ اہراہ سہہ سکل ہاکھ یادہر آنہ سفلتار پوربوتھہ

دردناک ہے۔ وہ آنے والا دن، کہ کتنے ہی چہرے اُس دن چمک اٹھیں گے،

دردناک ہہ۔ وہ آانے والا دن، کھ کتنہہ ہي کھہرے اؤس دن کھک اٹھیں گہ،
دردناک ہہ۔ وہ آانہ ویاہا دین، کھ کتہنہ ہي کھہرے اؤس دین کھمک اؤرٹي گہ۔
کٹڈاہاک آاہاب رہئےکھہ۔ ائ آاگت دین بکھ کھہارا کھمکاتہ تھاکہہ آار

کتنے ہی چہرے کالے پڑ جائیں گے۔ یعنی کتنے ہی خوش نصیب ہوں گے

کتہنہ ہي کھہرے کالہ پؤ آاہي گہ۔ ایہانی کتہنہ ہي کھوش نسیب کھگہ
کوتہ نا (بکھ) کھہارا کالو ہئے یابہ۔ اؤرٹا بکھ لوک سؤباگہبان ہبہ،

جن کے لئے کامیابی کی خوش حالی ہوگی، کتنے ہی بد نصیب ہوں گے جن

آینکے لیکہ کامیہا کي کي کھوش ہالی کھگي، کتہنہ ہي بڈ نصیب ہوں گہ آین
یادہر آنہ سفلتار سوبہبکھشا آار کتک لوک ہتہباگہ ہبہ، یادہر

شہارٹ : کٹھہ - ائکابکھک، دردناک - کٹڈاہاک، باہم - پورسپور، بڈ نصیب - دؤرثاگہ، کامیابی -
سفلتہ۔ اؤرٹا - نیراشا، نامراؤی - سؤکھ-سؤکھنڈ، خوشحالوں - کھہرٹا کھک اہبکھشا، تہہ ہالی - سفلتہ۔

کے لئے حسرت و نامرادی کی تباہ حالی ہوگی۔ سو جن لوگوں کے چہرے حسرت

کے لیے هاسرت انامرادی کی تباہ حالی هے۔ جو جن لوگوں کے چہرے حسرت کے لیے هاسرت انامرادی کی تباہ حالی هے۔ جو جن لوگوں کے چہرے حسرت کے لیے هاسرت انامرادی کی تباہ حالی هے۔

نامرادی سے کالے پڑ جائیں گے اُن سے اُس دن کہا جائے گا، تم نے ایمان

انامرادی هے کالے پڑ یایی گے اُن هے اُس دن کاهآ جآے گآ۔ توم نے ایمان انامرادی هے کالے پڑ یایی گے اُن هے اُس دن کاهآ جآے گآ۔ توم نے ایمان انامرادی هے کالے پڑ یایی گے اُن هے اُس دن کاهآ جآے گآ۔

کے بعد پھر انکار حق کی راه اختیار کر لی تھی، تو جیسی کچھ تمہاری منکرانہ چال تھی،

کے بعد پھر انکار حق کی راه اختیار کر لی تھی، تو جیسی کچھ تمہاری منکرانہ چال تھی، کے بعد پھر انکار حق کی راه اختیار کر لی تھی، تو جیسی کچھ تمہاری منکرانہ چال تھی،

اب اس کی پاداش میں عذاب کا مزہ چکھ لو۔ اور جن لوگوں کے چہرے کامیابی

اب اس کی پاداش میں عذاب کا مزہ چکھ لو۔ اور جن لوگوں کے چہرے کامیابی اب اس کی پاداش میں عذاب کا مزہ چکھ لو۔ اور جن لوگوں کے چہرے کامیابی

کی خوش حالیوں سے چمک رہے ہوں گے، سو وہ اللہ کی رحمت کے سائے میں ہو گے

کی خوش حالیوں سے چمک رہے ہوں گے، سو وہ اللہ کی رحمت کے سائے میں ہو گے کی خوش حالیوں سے چمک رہے ہوں گے، سو وہ اللہ کی رحمت کے سائے میں ہو گے،

ہمیشہ رحمت الہی میں رہنے والے۔ اے پیغمبر! یہ اللہ کی آیتیں ہیں، جو ہم

ہمیشہ رحمت الہی میں رہنے والے۔ اے پیغمبر! یہ اللہ کی آیتیں ہیں، جو ہم ہمیشہ رحمت الہی میں رہنے والے۔ اے پیغمبر! یہ اللہ کی آیتیں ہیں، جو ہم

تمہیں فی الحقیقت سنارہے ہیں۔ اور یہ نہیں ہو سکتا کہ خدا تمام دنیا پر ظلم کرنا

تمہیں فی الحقیقت سنارہے ہیں۔ اور یہ نہیں ہو سکتا کہ خدا تمام دنیا پر ظلم کرنا تمہیں فی الحقیقت سنارہے ہیں۔ اور یہ نہیں ہو سکتا کہ خدا تمام دنیا پر ظلم کرنا

ماتبیرا، عذاب۔ شاستی، کالے۔ کوشی، منکرانہ چال۔ انکارملاک، اکارق، ساتہر انکارملاک، ماتبیرا، عذاب۔ شاستی، کالے۔ کوشی، منکرانہ چال۔ انکارملاک، اکارق، ساتہر انکارملاک، ماتبیرا، عذاب۔ شاستی، کالے۔ کوشی، منکرانہ چال۔ انکارملاک، اکارق، ساتہر انکارملاک،

چاہے۔ اور یاد رکھو! آسمان وزمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کے لئے ہے۔

چاہے۔ آؤر اییاد راکھو! آسماں ا زمین مے جؤ کؤچ ہے سب آلاہ ہی کے لیے ہے، کرتے چان۔ آار سمرن رےخ! آسماں و زمینےر مध्ये یا کيخؤ آاھے، سبکيخؤ اءکماآر آلاہ تا'آلارر جنی

اور ساری باتیں بالآخر اسی کی طرف لوٹنے والی ہیں۔ مسلمانو! تم تمام

آؤر ساری باآی بیل آاآیر اسی کي آررف لوآنے ویرالی ہے۔ مسلمانو! آؤم آامام اےبغ سبکيخؤ سربشےب آارہی آیکے آرآیابآرنکاری۔ مسلمانانان! آؤمرا سمنسؤ

امتوں میں ”بہتر امت“ ہو جو لوگوں کی اصلاح و ارشاد کے لئے ظہور میں

اؤمآؤ مے ”بےآرےر اؤمآؤ“ ہؤ جؤ لوگوں کي ااصلاح و ارشاد کے لیے ظہور میں اؤمآؤرےر মধ্যে ”سربؤآؤم اؤمآؤ“ یارا لؤکآرےر سئشؤآن و پآآ آرآرشنرےر جنی

آئی ہے۔ تم نیکی کا حکم دینے والے، بُرائی سے روکنے والے اور اللہ پر سچا ایمان

آیے ہے۔ آؤم نکی کا حکوم آرےر ویرالے، برائی سے روکنے ویرالے آؤر آلاہ پر ساآآا ایمان آرکاشیآ ہیرے۔ آؤمرا لؤکآرےرکے سئکآرےر آرآرشنکارری، آاراپ کآرےر بانا آانکاری اےبغ آلاہر اؤپر یآایآ بئشاس

رکھنے والے ہو۔ اور اگر اہل کتاب مخالفت و سرکشی کی جگہ ایمان لاتے تو یہ

راکھنے ویرالے ہؤ۔ آؤر اگر اہل کتاب مخالفت و سرکشی کي آرےر ایمان لاتے آؤ یہ اراکھنے ویرالے ہؤ۔ آؤر آار آاھلے کيآاب مؤآالیفآٹ ا آرےرکاشی کي آارآا ایمان لاتے آؤ ایےر سآاپنکاری۔ آار یآی آاھلے کيآاب سمنآرآای برؤآاآرررر و اباآیآار پریربرے ایمان آانآ آرےر آا

ان کے لئے بہتری کی بات ہوتی اور ہدایت و ارشادِ عالم کا کام ان کے

این کے لیے بےآرری کي باآ آؤی آؤر آیاآاٹ ا ایرشآرے آالام کا کام اینکے آآرےر جنی اؤآؤم کآر آٹ اےبغ آرآایےر و بئشؤآرےر پآآ آرآرشن آآرےر

ہاتھوں انجام پاتا، لیکن وہ اس کے اہل ثابت نہ ہوئے۔ (القرآن الکریم)

آاؤ آارآام پآا۔ لکیں وھ اؤسکے آاھال آاریرآ نا ہیرے۔ (آال کورآانول کاریم) آاآے سماآا آٹ کيخؤ آارا آار اؤپیؤآؤ آرمانیآ ہیرنی۔ (آال کورآانول کاریم)

شکارآ : بالآخر - پریرشےرے، طرف - آیکے، ااصلاح و ارشاد - سئشؤآن و سئپآآ آرآرشن۔ مخالفت - بریراآیآ، سرکشی - اباآیآ و ارشاد - آرآرشن، اہل - اؤپیؤآؤ، ظہور - آرکاشی۔

خدا کے حضور میں دعا

خودا کي ہضور ميں دُعا!

آلئاءُہر درباري موناآات

ہاتھ اٹھائے سر کو جھکائے تیرے کرم پر آس لگائے

ہات اٹھايے ہير کوا بؤکايے + تيرے کرم پر آس لگاايے

ہات اٹھايے ماتھا نات کرے + تومار کرفگار प्रति ہرسا کرے

آئے ہیں یارب تیرے در پر لطف کی اپنے ہم پہ نظر کر

آيے ہيے ارب تيرے در پر لطف کي اپنے ہم پہ نظر کر

آسيہي ہيے ہربر تيرے در پر + لؤتف کي آپنہ ہامپہ نبر کر

آسيہي ہيے ہربر! تب درباري + مودہر प्रति ديا کر کرفگار دؤطي |

آرزوئیں کچھ دل میں بھری ہیں آنکھیں تیری سمت لگی ہیں

آربؤي کؤچ دل ميں ہري ہيے + آؤکؤي تيري ہمت لافي ہيے

آؤؤا، باسنا کيؤؤ اؤتور ہرپر + چؤؤؤؤل تيب پانہ نيبؤؤہي آؤؤہ،

رحمت کر، دن پیکر ہمارے ہم ہیں تیرے محبوب کی پیارے

رہمت کر دن فير ہمارے + ہام ہيے تيرے ماہربوب کي پيارے

رہم کر، فيراؤ مودہر دن + آامرا ہلام تومار ماہربوبہر پريؤ اؤمؤت |

ہم کو بنا اسلام کا شیدا یعنی ہر اچھے کام کا شیدا

ہامکو بانا ايسلام کا شايءا + ايسا'ني ہار آؤؤہ کام کا شايءا

آامادہرکي باناؤ ايسلامہر پريميک + سکل بال کاجيہر پاگل،

نام پہ تیرے جان فدا ہو کوئی نہ دل میں تیرے سوا ہو

نامپہ تيرے جان فيءا ہؤ + کؤي نا دل ميں تيرے سوا ہؤ

تب نامہر اؤپر آيبان کؤربان ہؤک + تؤمي بينہ ہؤءيہ کيؤ نا آؤکؤک |

شءارؤ : نيکي - سؤکاء، برائي - آاراپ کاء، سچا ايمان - ساتيکار اؤمان، انجم - परिमाण، ليک -

کيؤؤ، حضور - درباري ساميپہ، جھکائے - نيؤ، اوبنات، بؤکانو، آرزؤي، آاکاؤؤفا، باسنا |

حضور اکرم ﷺ کی پاک زندگی!

حضرت آکرام (سا) کی پاک زندگی
نبی کریم (سا) اور پবیرت جیبان

اگر چہ آپ کا ذکر مبارک مختصر طور پر ”اردو کی دوسری کتاب“ میں گذر

آگار چہ آپکا یکر مبارک مومتاآار تار اور ”اردو کی دوتری کتاب“ مہ اور
ادی و نبی کریم (س) اور برنا سفتیوتابہ ’اردو‘ دوتری کتابہ برت

چکا ہے، مگر یہاں بھی قدرے تفصیل کے ساتھ آپ کی پاک زندگی کا

آکا ہے، مگر یہاں ہی کدرے تافیل کے ساتھ آپ کی پاک زندگی کا
آکا ہے، مگر یہاں ہی کدرے تافیل کے ساتھ آپ کی پاک زندگی کا

حال لکھنا ضروری ہے۔ اس لئے کہ آپ پاک زندگی ساری پاک

آال لیکھنا ضروری ہے۔ اس لئے کہ آپ پاک زندگی ساری پاک
آال لیکھنا ضروری ہے۔ اس لئے کہ آپ پاک زندگی ساری پاک

زندگیوں کے لئے سرچشمہ ہے۔ آپ کی پاک زندگی سے سبق لئے بغیر

زندگیوں کے لئے سرچشمہ ہے۔ آپ کی پاک زندگی سے سبق لئے بغیر
زندگیوں کے لئے سرچشمہ ہے۔ آپ کی پاک زندگی سے سبق لئے بغیر

اللہ تعالیٰ کی رضا و محبت حاصل نہیں ہو سکتی۔ آپ کی ولادت سراپا

اللہ تعالیٰ کی رضا و محبت حاصل نہیں ہو سکتی۔ آپ کی ولادت سراپا
اللہ تعالیٰ کی رضا و محبت حاصل نہیں ہو سکتی۔ آپ کی ولادت سراپا

بشارت ربیع الاول کے مہینے میں پیر (سوموار) کے دن صبح صادق کے

بشارت ربیع الاول کے مہینے میں پیر (سوموار) کے دن صبح صادق کے
بشارت ربیع الاول کے مہینے میں پیر (سوموار) کے دن صبح صادق کے

شکارث : بزا - تری، دیاریں، آراا، دویال، باا، ڈادیں، آہے فہلا، علم و ہنر، آان و
آریوتی- شلکارم، تفصیل - بشارتتبابہ، سرچشمہ - آتس، آتپنتیول۔

وقت آٹھویں یا بارہویں تاریخ کو ہونی انگریزی تاریخ ۲۰ - اپریل

ویراج آٹھویں یا بارہویں تاریخ کو ہونی، انگریزی تاریخ ۲۰ اپریل
 সময় ۸ اথبا ۱۲ تاریخ ہونے لیل۔ انگریزی ۲۰ اپریل

انکے بیان کی گئی ہے۔ اس وقت ایران میں نوشیرواں بادشاہ کی

۵۹۱ ہساری بیان کی گائی ہے۔ اس ویراجت ایران مے نوشیرواں بادشاہ کی
 ۵۹۱ سال ورننا کرا ہونے لے۔ اے সময় ایرانے نوشیرواں بادشاہر

حکومت تھی، جس کا عدل و انصاف مشہور ہے۔ آپ کا سلسلہ

حکومت تھی، جس کا عدل و انصاف مشہور ہے۔ آپ کا سلسلہ
 حکومت تھی، جس کا عدل و انصاف مشہور ہے۔ آپ کا سلسلہ
 شاسن لیل، یار نیاورپراونتا اے و سوبچار ارسنک لیل۔ نبیجیر و نیشور ویرا واریکاتا

نسب اس طرح ہے۔ ”محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب بن ہاشم

نسب اس طرح ہے۔ ”محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب بن ہاشم
 نسب اس طرح ہے۔ ”محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب بن ہاشم
 اے و سوبچار ارسنک لیل۔ نبیجیر و نیشور ویرا واریکاتا

ابن عبد مناف“ آپ کی ولادت بابرکت کے وقت بہت سی ایسی باتیں

ابن عبد مناف“ آپ کی ولادت بابرکت کے وقت بہت سی ایسی باتیں
 ابن عبد مناف“ آپ کی ولادت بابرکت کے وقت بہت سی ایسی باتیں
 ہونے لے۔ انکے بیان کی گئی ہے۔ اس وقت ایران میں نوشیرواں بادشاہ کی

ظہور میں آئیں جو کبھی دنیا میں نہ ہوئی تھیں۔ بے زبان جانوروں نے

ظہور میں آئیں جو کبھی دنیا میں نہ ہوئی تھیں۔ بے زبان جانوروں نے
 ظہور میں آئیں جو کبھی دنیا میں نہ ہوئی تھیں۔ بے زبان جانوروں نے
 ہونے لے۔ انکے بیان کی گئی ہے۔ اس وقت ایران میں نوشیرواں بادشاہ کی

انسانی زبان میں آپ کی خوش خبری سنائی، درختوں سے آوازیں آئیں،

انسانی زبان میں آپ کی خوش خبری سنائی، درختوں سے آوازیں آئیں،
 انسانی زبان میں آپ کی خوش خبری سنائی، درختوں سے آوازیں آئیں،
 ہونے لے۔ انکے بیان کی گئی ہے۔ اس وقت ایران میں نوشیرواں بادشاہ کی

شکارت : رضا محبت - سمنڈھن و بالواسا ، بشارت ، سب و نیرا و ، تاریخ ، ماسرے اے اے اے

شکارت : رضا محبت - سمنڈھن و بالواسا ، بشارت ، سب و نیرا و ، تاریخ ، ماسرے اے اے اے
 شکارت : رضا محبت - سمنڈھن و بالواسا ، بشارت ، سب و نیرا و ، تاریخ ، ماسرے اے اے اے

کہا کہ اے ماں! میرے قریشی بھائی کو دو سفید پوش مردوں نے آکر

کہا کہ آہ ما! مہرے کورایشی ہائی کو دو سفید پوش مردوں نے آکر
بولن، ہہ آما! آمار کورایشی ہائیکہ دوہ سادا پوشاک ہرہیت ہائی اسہ

لٹایا اور ان کا سینہ چاک کر دیا۔ یہ سنکر وہ بہت پریشان ہوئیں اور فوراً

لٹایا آاور ان کا سینا چاک کار دیا۔ ایہہ سونکار اوہ ہت پہرہشان ہئی آاور فاوران
ہوہیہ فہلہ اہہ تاں ہک ہیدیہ کارہ دہی۔ اہکھا ہونہ ہالہما ہوبہ پہرہشان ہلہن اہہ تہنگہا

جنگل گئیں، دیکھا تو آپ صحیح و سالم ہیں مگر چہرہ مبارک پر خوف کے

ہک ہا ہا ہا، دیکھا تو آپ سہیہ او سالہم ہہ، مہر چہرہ ہہ موبارک ہر ہوف کہ
مارہہ گہلہن، تہنہ دہخلہن نہی سا۔ سوسو او نہراپدہ آہلہن، تہہ چہہرا موبارکہر اہہ ہہ ہہ ہہ

آثار ہیں۔ پھر سارا واقعہ خود آپ نے بیان کیا۔ ہر مرتبہ شق صدر میں

آہار ہہ۔ ہہر سارا اوہاکیہا ہود آپ نہ ہیان کیہا۔ ہار مہرتہا شاکہ ہدر مہ
چہر ہیدیہمان۔ اتہہہر سمش ہٹنا تہنہ نہجہہ ہہرنا کارہن۔ ہرہہار ہک ہیدیہرہ

فرشتے آپ کا سینہ مبارک چاک کرتے اور آپ کے قلب اطہر کو

فہرہشہہ آپ کا سینا ہہ موبارک چاک کارتہ آاور آپکہ کولہہ آاتہار کو
سامہ فہرہشاہا تاں سینا موبارک ہہڈہ فہلہتہن اہہ تاں ہہہر آاتراکہ

ایک طشت میں جس میں زمزم کا پانی ہوتا تھا دھوتے تھے۔ بُت

اہک ہشہ مہ جس مہ زمزم کا ہانی ہوتا تھا دھوتہ تہہ۔ ہوت
اہک ہہ ہاڈرہ مہہہ رہہ (ہا ہمہہہر ہانی ہہرتی ہیل) ہوت کارتہن۔ مورتی

پرستی اور بے حیائی کے کاموں سے آپ ہمیشہ پرہیز کرتے رہے۔

ہورکشتی آاور ہہ ہاہاہی کہ کامو ہہ آپ ہامہشا ہرہہہ کارتہ راہہ۔
ہؤجا اہہ نہرلجک کارکرم تہکہ نہہجی سا۔ سہرہا دہرہ تہاکتہن۔

شہارہ : سفید پوش - سادا پوشاک ہرہیت، فوراً - تہنگہا، سہیہ و سالم - نہراپد او سوسو۔

ہک ہا ہا ہا - نہرلجک ہہہا، سہرہت اور امانت - سہرہا ہا ہا او آامانت داری۔

آپ کي صداقت اور امانت نبوت سے پہلے بهي تمام مکہ ميں مشهور اور

آپ کي خداکات آاور آمانت نبوويات هے پہلے بهي تمام مکہ ميں مشهور آاور
تار ساتتا اءب آمانت نبوويات اٲاځير پوءےو سماء مڪلاي اٲسيدء اءب

مُسلّم اكل تهى۔ چنانچہ آپ كالب ”صاوق“ و ”امين“ هر چھوٹے بڑے

موسالمامول كول هئى | چناچه آپكا لكوب ’خااىك’ و ’آامين’ هار هوءے بءے
سارءن سءكوت هئى | تاهى نبىءى سا. اءر اٲاځى هئى ’سااىك’ اءب ’آامين’ (بىءسئى) اٲتئى هوءے بءے لوكءر

كى زبان پر چڑھا ہوا تھا۔ جب آپ كى عمر پچھيس سال كى هوى تو

كى رابان پر چءھا هوى هئا | ءب آپ كى اءمر پءئى سال كى هوى تو
موءهئى آالوچئى هئى يءن نبىءى سا. اءر بوىس ۲۵ بءسءر هئى، تءن

حضرت خديجہ رضى اللہ عنہا كے ساتھ آپ كا نكاح هوا، جو خاندان قرئش

هءرءت خااىءا (راء) كے ساٲ آپ كا نىكاھ هوى | ءو بانءانے كورائىش
هءرءت خااىءا راء. -اءر سءے تار بىباھ هئى، يئى كورائىش بءشءر

ميں ايك بڑى دانشمند اور دولت مند خاتون تهئى، اور آپ كے اوصاف

مے اءك بءىءا ءانءشامءء آاور ءولءامءء خااون هئى | آاور آپ كے آاوساىف
اءءن خوب بوءىمءئى و ءنءبءئى مھىلا هئىءن اءب تئى هءور سا. اءر ءنابلى

وكالات سكرىه اندازہ كر چكى تهئى كہ جس نبى موعود كى پئشئى كونيائى

آ كامالاء ءنكار هئى آانءاهاھ كار چكى هئى كے ءئس نبىءے ماوءءء كئى پءشئى ءوئىا
و پرىپورنءار كءا ءنءے اءا بوءءے پءرءهئىءن هے، هے اٲرئشءء نبىءر ءبىمءاءءاځئى

علمائے يهود و نصارى بيان كرتے هئى كيا عجب هئى كہ آپ ﷺ هئى

اءلاماءے هئىءءء آ ناسارا بءان كرءے هے كىا آاءب هے كے آپ (سا) هئى
اٲرئشءان و اءب هئىءءءئى آالءمءنءن كرءهئىءن، آاشرءےءر كى آاھے هے تئىهئى (نابئى سا)

شءارء : مُسلّم اكل - سارءن سءكوت، صاوق - سءبءاءئى، امئى - آمانءءءار، ءائءء - ءءانى، بىءءان |

نبى موعود - اٲرئشءء نبئى، پئشئى كونيائى - ءبىمءاءءءاځئى، بءن - اءءر، ءرء، پءء |

ہوں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر نکاح کے وقت چالیس ۴۰ سال کی

تھی۔ ہجرت خادیجا (را) انہا کی عمر نکاح کے وقت چالیس سال کی
 تھی۔ آپ کی سب اولاد انہیں کے بطن سے ہیں سوا حضرت ابراہیم

رضی اللہ عنہ کے کہ وہ ”حضرت ماریہ قبطیہ“ رضی اللہ عنہا کے بطن سے

تھی۔ آپ کی سب اولاد انہیں کے بطن سے ہیں سوا حضرت ابراہیم
 رضی اللہ عنہ کے کہ وہ ”حضرت ماریہ قبطیہ“ رضی اللہ عنہا کے بطن سے

تھی۔ جب عمر مبارک چالیس ۴۰ سال کی ہوئی تو دو شنبہ (پیر) کے دن

تھی۔ جب عمر مبارک چالیس ۴۰ سال کی ہوئی تو دو شنبہ (پیر) کے دن
 تھی۔ جب عمر مبارک چالیس ۴۰ سال کی ہوئی تو دو شنبہ (پیر) کے دن

تھی۔ جب عمر مبارک چالیس ۴۰ سال کی ہوئی تو دو شنبہ (پیر) کے دن

تھی۔ جب عمر مبارک چالیس ۴۰ سال کی ہوئی تو دو شنبہ (پیر) کے دن
 تھی۔ جب عمر مبارک چالیس ۴۰ سال کی ہوئی تو دو شنبہ (پیر) کے دن

تھی۔ جب عمر مبارک چالیس ۴۰ سال کی ہوئی تو دو شنبہ (پیر) کے دن

تھی۔ جب عمر مبارک چالیس ۴۰ سال کی ہوئی تو دو شنبہ (پیر) کے دن
 تھی۔ جب عمر مبارک چالیس ۴۰ سال کی ہوئی تو دو شنبہ (پیر) کے دن

تھی۔ جب عمر مبارک چالیس ۴۰ سال کی ہوئی تو دو شنبہ (پیر) کے دن

تھی۔ جب عمر مبارک چالیس ۴۰ سال کی ہوئی تو دو شنبہ (پیر) کے دن
 تھی۔ جب عمر مبارک چالیس ۴۰ سال کی ہوئی تو دو شنبہ (پیر) کے دن

تھی۔ جب عمر مبارک چالیس ۴۰ سال کی ہوئی تو دو شنبہ (پیر) کے دن

تھی۔ جب عمر مبارک چالیس ۴۰ سال کی ہوئی تو دو شنبہ (پیر) کے دن
 تھی۔ جب عمر مبارک چالیس ۴۰ سال کی ہوئی تو دو شنبہ (پیر) کے دن

تھی۔ جب عمر مبارک چالیس ۴۰ سال کی ہوئی تو دو شنبہ (پیر) کے دن

تھی۔ جب عمر مبارک چالیس ۴۰ سال کی ہوئی تو دو شنبہ (پیر) کے دن

عیسانی؁ یہودی؁ مجوسی سب ایک حالت میں تھے۔ عرب و عجم سب کی

کساری؁ ایرائدی؁ ماآوسی سب اک ہالت مہ تھہ۔ اارب ا اایم سبکی
کریٹان؁ ایرائدی؁ اآنیپوک سبالہ اکہی اباںھار کھل۔ اارب انارب سبار کھل

ایک کیفیت تھی۔ فواکش و معاصی کو کوئی عیب نہ سمجھتا تھا۔ چوری اور

اک کایفیت تھف۔ فایاھشہ ا ماآھی کو کوی ایب نا سمباتا تا۔ کوری ااور
اک دشا۔ انشلیلتا اباں پاپاچارکہ کوں دوش منہ کرت نا۔ کوری اباں

رہزنی کو لوگوں نے پیشہ بنا لیا تھا۔ اپنی اولاد کو اپنے ہاتھ سے قتل کر دینا

راہزنی کو لوانہ پشا بانا لیا تا۔ اپنی ااولاد کو اپنہ ہات کتل کار دنہ
ڈاکاتیکہ لوانہ پشا بانینہ نیہہکھل۔ نیآ سبتانکہ نیآ ہاتہ ہتیا کارا

کوئی بڑی بات نہ تھی۔ خدا کا خیال دلوں سے نکل چکا تھا۔ کہیں

کوی بڈف بات نا تھف۔ کوا کا کھلال دفل کھ نیکال کوا تا۔ کایہ
کوں دوشہر کاآ کھل نا۔ االناہر سمرآ اااار کھہ ہرہ گیکہکھل۔ کواٹاا

بتوں کی پوجا ہو رہی تھی۔ کہیں آگ کو سجدہ کیا جا رہا تھا، کہیں درختوں

بوٹو کف پوکا کھ راکھ تھف۔ کایہ ااآ کو سیکدا کیا آا راکھ تا۔ کایہ درکھتو
مورتف پوکا کھکھل؁ کواٹاا ااااااا کو سیکدا کارا کھکھل۔ کواٹاا بکھ

اور جانوروں کے سامنے سر جھکے ہوئے تھے، کہیں نیک بندوں کو معبود

ااور آانواار کھ سامنہ کھر بککھ کھہ تھہ۔ کایہ نیک بانڈکوا ما'بود
اباں آانواار دہر سامنہ ماٹا بککانو کھکھل۔ کواٹاا نیک باندا دہرکہ ما'بود

سمجھا جاتا تھا، کہیں قبروں اور ہیٹوں پر چڑھاوے چڑھ رہے تھے،

سامبا آاتا تا۔ کایہ کبرر ااور ہاکلن پر کڈہابہ کڈ راکھ تھہ۔
منہ کارا ہت۔ کواٹاا کبرر اباں مندیرہر اااار دہبٹار اادہشہا بیکھن دربا سامٹری ااااا کارا کھکھل۔

شدارب : معاصف - آانہر کاآکارم؁ پاپاچار؁ چوری - کوری؁ کوربکرت؁ رہزنی - ڈاکاتی؁ مہبود -

اااسا؁ ہیکوں - مندیر؁ پھلی ہونی - بکساریت؁ پھنس ہونی - اابکھ۔

بادشاہ رعیت پر ظلم کر رہے تھے، بڑے چھوٹوں کو ستا رہے تھے، امیر

بادشاہ ریاویات پر یولوم کر رہے تھے۔ بڑے چھوٹے کو ستا رہے تھے، آمیر
بادشاہ پر جادوں کے پر یولوم کر رہے تھے، بڑے چھوٹوں کو ستا رہے تھے،

غریبوں کو تنگ کر رہے تھے۔ غرض کہ ہر جگہ نیکی کے بدلے بدی اور

گریب کو تنگ کر رہے تھے۔ غرض کہ ہر جگہ نیکی کے بدلے بدی اور
گریب کو تنگ کر رہے تھے۔ غرض کہ ہر جگہ نیکی کے بدلے بدی اور

بھلائی کی جگہ بُرائی پھیلی ہوئی تھی۔ اور ساری دنیا بڑی سخت مصیبت

آؤر بالائی کی جاگجا بڑا ہی فہلی ہئی تھی۔ آؤر ساری دُنئی بڑی سخت موسیبت
بالر سٹانے خارا پ پر بےش ہڈیے پڈے ہل۔ آؤر سمر پٹھی بڑ کٹن مسیبت

اور پریشانی میں پھنسی ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ جو سب سے بڑے مہربان ہیں۔

آؤر پریشانی مے فہس ہئی تھی۔ آلاہ تا'آلا جھ ہے بڈے مہربان ہے۔
آؤر پریشانی مے فہس ہئی تھی۔ آلاہ تا'آلا جھ ہے بڈے مہربان ہے۔

دنیا کی یہ خراب حالت دیکھ کر انھیں رحم آیا اور اُسے پھر سے درست

دُنئی کی ہئے خراب ہالت دکھ کر انہی رھم آؤر آؤر ہئے فہر ہے درسٹ
دُنئی آؤر ہئے خراب ہالت دکھ کر انہی رھم آؤر آؤر ہئے فہر ہے درسٹ

کرنے کی لئے حضور اکرم محمد ﷺ کو "رَحْمَةٌ لِّلْعَالَمِينَ" بنا کر بھیجا۔

کارنے کے لیے ہئے آؤر اکرم مہامد (سا) کو "راہماتوللین آلامین" بنا کر ہئیجا۔
کارنے کے لیے ہئے آؤر اکرم مہامد (سا) کو "راہماتوللین آلامین" بنا کر ہئیجا۔

جنہوں نے یکا یک دنیا کی کایا پلٹ کر رکھ دی اور بجائے کفر و شرک کے

جینھ نے آکا آک دُنئی کی کایا پلٹ کر رکھ دی آؤر بجاے کفر آ شیرک کے
جینھ نے آکا آک دُنئی کی کایا پلٹ کر رکھ دی آؤر بجاے کفر آ شیرک کے

خدا پرستوں - آلعیت کرے ہلےن، جگڈیا - آوےب، رپ، کایا - ہٹا، تہنگات، یکا یک -

خدا پرستوں - آلعیت کرے ہلےن، جگڈیا - آوےب، رپ، کایا - ہٹا، تہنگات، یکا یک -
خدا پرستوں - آلعیت کرے ہلےن، جگڈیا - آوےب، رپ، کایا - ہٹا، تہنگات، یکا یک -

ایمان کی روشنی سے زمین کو جگمگا دیا۔ تھوڑے ہی دنوں میں آپ کی تعلیم

ایمان کی روشنی ہے زمین کو جگمگا دیا۔ تھوڑے ہی دنوں میں آپ کی تعلیم
 ایمان کی روشنی ہے زمین کو جگمگا دیا۔ تھوڑے ہی دنوں میں آپ کی تعلیم
 ایمان کی روشنی ہے زمین کو جگمگا دیا۔ تھوڑے ہی دنوں میں آپ کی تعلیم

نے خدا پرستوں کی ایک بڑی جماعت تیار کر دی جو اعلیٰ ترین اخلاق اور

نے خدا پرستوں کی ایک بڑی جماعت تیار کر دی جو اعلیٰ ترین اخلاق اور
 نے خدا پرستوں کی ایک بڑی جماعت تیار کر دی جو اعلیٰ ترین اخلاق اور
 نے خدا پرستوں کی ایک بڑی جماعت تیار کر دی جو اعلیٰ ترین اخلاق اور

کامل ترین زہد و تقویٰ میں اس بلند مرتبے پر تھے کہ تاریخ عالم ان کی

کامل ترین زہد و تقویٰ میں اس بلند مرتبے پر تھے کہ تاریخ عالم ان کی
 کامل ترین زہد و تقویٰ میں اس بلند مرتبے پر تھے کہ تاریخ عالم ان کی
 کامل ترین زہد و تقویٰ میں اس بلند مرتبے پر تھے کہ تاریخ عالم ان کی

مثال پیش کرنے سے عاجز ہے۔ نبوت کے بعد تیرہ برس آپ مکہ

مثال پیش کرنے سے عاجز ہے۔ نبوت کے بعد تیرہ برس آپ مکہ
 مثال پیش کرنے سے عاجز ہے۔ نبوت کے بعد تیرہ برس آپ مکہ
 مثال پیش کرنے سے عاجز ہے۔ نبوت کے بعد تیرہ برس آپ مکہ

معظمہ میں رہے۔ پھر ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔

معظمہ میں رہے۔ پھر ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔
 معظمہ میں رہے۔ پھر ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔
 معظمہ میں رہے۔ پھر ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔

وہاں دس برس رہے۔ اس دس سال میں تیئیس ۲۳ لڑائیاں بھی آپ

وہاں دس برس رہے۔ اس دس سال میں تیئیس ۲۳ لڑائیاں بھی آپ
 وہاں دس برس رہے۔ اس دس سال میں تیئیس ۲۳ لڑائیاں بھی آپ
 وہاں دس برس رہے۔ اس دس سال میں تیئیس ۲۳ لڑائیاں بھی آپ

کو کافروں سے لڑنی پڑیں۔ معجزات و خوارق عادت آپ سے بکسرت

کو کافروں سے لڑنی پڑیں۔ معجزات و خوارق عادت آپ سے بکسرت
 کو کافروں سے لڑنی پڑیں۔ معجزات و خوارق عادت آپ سے بکسرت
 کو کافروں سے لڑنی پڑیں۔ معجزات و خوارق عادت آپ سے بکسرت

شکارت : عالم - تاریخ عالم، -بشیر ہتہاس، لڑائیاں - یوں سمہ، معجزات و خوارق، -موجہا و اہلوقہ ہٹنابہلی،

شکارت : عالم - تاریخ عالم، -بشیر ہتہاس، لڑائیاں - یوں سمہ، معجزات و خوارق، -موجہا و اہلوقہ ہٹنابہلی،
 شکارت : عالم - تاریخ عالم، -بشیر ہتہاس، لڑائیاں - یوں سمہ، معجزات و خوارق، -موجہا و اہلوقہ ہٹنابہلی،
 شکارت : عالم - تاریخ عالم، -بشیر ہتہاس، لڑائیاں - یوں سمہ، معجزات و خوارق، -موجہا و اہلوقہ ہٹنابہلی،

ظاہر ہوئے۔ سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید ہے جس میں فصاحت و

جاہر ہے۔ جب سے بڑا موجد کورآن مجید ہے جس میں فصاحت و
جاہر ہے۔ جب سے بڑا موجد کورآن مجید ہے جس میں فصاحت و

بلاغت کا اعجاز بھی ہے اور اخبار غیب، قوت تاثیر اور صداقت بیان کا بھی۔

بالاگات کا 'جاہر' ہی ہے اور آخبر غیب، قوت تاثیر اور صداقت بیان کا بھی۔
بالاگات کا 'جاہر' ہی ہے اور آخبر غیب، قوت تاثیر اور صداقت بیان کا بھی۔

نبوت کے بارہویں سال جب کہ عمر مبارک اکاون سال نو ماہ کی تھی،

نبوویات کے بارہویں سال جب کہ عمر مبارک اکاون سال نو ماہ کی تھی،
نبوویات کے بارہویں سال جب کہ عمر مبارک اکاون سال نو ماہ کی تھی،

حق تعالیٰ نے آپ کو معراج عطا فرمائی۔ یعنی آپ آسمانوں پر بلائے گئے۔

حق تعالیٰ نے آپ کو معراج عطا فرمائی۔ یعنی آپ آسمانوں پر بلائے گئے۔
حق تعالیٰ نے آپ کو معراج عطا فرمائی۔ یعنی آپ آسمانوں پر بلائے گئے۔

وہاں آپ نے جنت اور دوزخ کی سیر کی اور عالم ملکوت کے عجائب

وہاں آپ نے جنت اور دوزخ کی سیر کی اور عالم ملکوت کے عجائب
وہاں آپ نے جنت اور دوزخ کی سیر کی اور عالم ملکوت کے عجائب

اور اللہ تعالیٰ کی آیات کبریٰ کے مشاہدے سے مشرف ہوئے۔ آپ

اور اللہ تعالیٰ کی آیات کبریٰ کے مشاہدے سے مشرف ہوئے۔ آپ
اور اللہ تعالیٰ کی آیات کبریٰ کے مشاہدے سے مشرف ہوئے۔ آپ

کے اخلاق کریمانہ کی یہ کیفیت تھی کہ آپ کے اصحاب میں ہر شخص یہ

کے اخلاق کریمانہ کی یہ کیفیت تھی کہ آپ کے اصحاب میں ہر شخص یہ
کے اخلاق کریمانہ کی یہ کیفیت تھی کہ آپ کے اصحاب میں ہر شخص یہ

شکارت : عالم ملکوت - آধ্যائیک جگت، آیات کبریٰ - بڈ بڈ نیشنسموہ، کیفیت - آسٹا، پرنسٹیت،
شکارت : عالم ملکوت - آধ্যائیک جگت، آیات کبریٰ - بڈ بڈ نیشنسموہ، کیفیت - آسٹا، پرنسٹیت،

میں جا بسے۔ اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ۔ آخری وصیت جو
 مے جا بھے۔ اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ۔ آخری وصیت جو
 مے جا بھے۔ اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ۔ آخری وصیت جو
 مے جا بھے۔ اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ۔ آخری وصیت جو

آپ نے فرمائی وہ یہ تھی نماز کی حفاظت کرنا اور اپنے ماتحت والوں
 آپ (سا) نے فرمائی وہ یہ تھی نماز کی حفاظت کرنا اور اپنے ماتحت والوں
 آپ (سا) نے فرمائی وہ یہ تھی نماز کی حفاظت کرنا اور اپنے ماتحت والوں
 آپ (سا) نے فرمائی وہ یہ تھی نماز کی حفاظت کرنا اور اپنے ماتحت والوں

یعنی لونڈی، غلام اور خادموں کے ساتھ نیک سلوک کرنا۔
 یعنی لونڈی، غلام اور خادموں کے ساتھ نیک سلوک کرنا۔
 یعنی لونڈی، غلام اور خادموں کے ساتھ نیک سلوک کرنا۔
 یعنی لونڈی، غلام اور خادموں کے ساتھ نیک سلوک کرنا۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں جس جگہ آپ کی
 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں جس جگہ آپ کی
 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں جس جگہ آپ کی
 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں جس جگہ آپ کی

وفات ہوئی تھی، وہیں آپ کا روضہ بنا جو زیارت گاہ عالم ہے۔
 وفات ہوئی تھی، وہیں آپ کا روضہ بنا جو زیارت گاہ عالم ہے۔
 وفات ہوئی تھی، وہیں آپ کا روضہ بنا جو زیارت گاہ عالم ہے۔
 وفات ہوئی تھی، وہیں آپ کا روضہ بنا جو زیارت گاہ عالم ہے۔

بَلَّغَ الْعُلَىٰ بِكَمَالِهِ كَشَفَ الدُّجَىٰ بِجَمَالِهِ
 بَلَّغَ الْعُلَىٰ بِكَمَالِهِ كَشَفَ الدُّجَىٰ بِجَمَالِهِ
 بَلَّغَ الْعُلَىٰ بِكَمَالِهِ كَشَفَ الدُّجَىٰ بِجَمَالِهِ
 بَلَّغَ الْعُلَىٰ بِكَمَالِهِ كَشَفَ الدُّجَىٰ بِجَمَالِهِ

حَسُنَتْ جَمِيعُ خِصَالِهِ صَلُّوْا عَلَیْہِ وَآلِہٖ
 حَسُنَتْ جَمِيعُ خِصَالِهِ صَلُّوْا عَلَیْہِ وَآلِہٖ
 حَسُنَتْ جَمِيعُ خِصَالِهِ صَلُّوْا عَلَیْہِ وَآلِہٖ
 حَسُنَتْ جَمِيعُ خِصَالِهِ صَلُّوْا عَلَیْہِ وَآلِہٖ

شکارت : وفات - اہتیکال، روضہ - کبر، زیارت عالم - ہشواسیہ ہرشنہل، اہلاق نبوی - نبی ہریہ،
 شکارت : وفات - اہتیکال، روضہ - کبر، زیارت عالم - ہشواسیہ ہرشنہل، اہلاق نبوی - نبی ہریہ،
 شکارت : وفات - اہتیکال، روضہ - کبر، زیارت عالم - ہشواسیہ ہرشنہل، اہلاق نبوی - نبی ہریہ،
 شکارت : وفات - اہتیکال، روضہ - کبر، زیارت عالم - ہشواسیہ ہرشنہل، اہلاق نبوی - نبی ہریہ،

اخلاق نبویؐ کے چند نمونے

نبی (سا)-এর চরিত্রের কতিপয় আদর্শ

(۱) استقلال دৃঢ়তা

استقلال: (۱) جنگ بدر میں جب تین سو تیرہ بے سروسامان مسلمان

۱. جسے بدر میں جب تین سو تیرہ بے سروسامان مسلمان

۱. بدر میں جب تین سو تیرہ بے سروسامان مسلمان

ایک ہزار مسلح فوج کے مقابلے میں صف آرا تھے، قریش کو

ایک ہزار مسلح فوج کے مقابلے میں صف آرا تھے، قریش کو

ایک ہزار مسلح فوج کے مقابلے میں صف آرا تھے، قریش کو

اپنے سامان و جمعیت پر بڑا ناز تھا، تو حضور اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم

اپنے سامان و جمعیت پر بڑا ناز تھا، تو حضور اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم

اپنے سامان و جمعیت پر بڑا ناز تھا، تو حضور اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم

ذرا بھی نہ گھبرائے اور اپنے عزم پر قائم رہے۔

ذرا بھی نہ گھبرائے اور اپنے عزم پر قائم رہے۔

ذرا بھی نہ گھبرائے اور اپنے عزم پر قائم رہے۔

۲۔ جنگ احد میں آپؐ نے صحابہ سے مشورہ فرمایا کہ ہمیں

۲۔ جنگ احد میں آپؐ نے صحابہ سے مشورہ فرمایا کہ ہمیں

۲۔ جنگ احد میں آپؐ نے صحابہ سے مشورہ فرمایا کہ ہمیں

کیا کرنا چاہئے؟ اکثر صحابہؓ نے مدینے سے باہر نکل کر

کیا کرنا چاہئے؟ اکثر صحابہؓ نے مدینے سے باہر نکل کر

کیا کرنا چاہئے؟ اکثر صحابہؓ نے مدینے سے باہر نکل کر

شکارت : مشورہ - پرہیز، اکثر - اذیت، استقلال - اذیت، دھشت - کھانا،

شکارت : مشورہ - پرہیز، اکثر - اذیت، استقلال - اذیت، دھشت - کھانا،

لڑنے کا مشورہ دیا۔ جب آپ ہتھیار باندھ کر نکلے

لڑنے کا مشورہ دیا۔ جب آپ ہتھیار باندھ کر نکلے
لڑنے کا مشورہ دیا۔ جب آپ ہتھیار باندھ کر نکلے
لڑنے کا مشورہ دیا۔ جب آپ ہتھیار باندھ کر نکلے

تو بعض صحابہؓ نے رک جانے کا مشورہ دیا۔ آپ نے فرمایا کہ

تو بعض صحابہؓ نے رک جانے کا مشورہ دیا۔ آپ نے فرمایا کہ
تو بعض صحابہؓ نے رک جانے کا مشورہ دیا۔ آپ نے فرمایا کہ
تو بعض صحابہؓ نے رک جانے کا مشورہ دیا۔ آپ نے فرمایا کہ

اللہ کا رسول زرہ پہن کر اتار نہیں سکتا۔

اللہ کا رسول زرہ پہن کر اتار نہیں سکتا۔
اللہ کا رسول زرہ پہن کر اتار نہیں سکتا۔
اللہ کا رسول زرہ پہن کر اتار نہیں سکتا۔

۳۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک

۳۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک
۳۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک
۳۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک

درخت کے نیچے سو رہے تھے۔ کہ اچانک ایک مسافر

درخت کے نیچے سو رہے تھے۔ کہ اچانک ایک مسافر
درخت کے نیچے سو رہے تھے۔ کہ اچانک ایک مسافر
درخت کے نیچے سو رہے تھے۔ کہ اچانک ایک مسافر

سامنے آیا اور میان سے تلوار کھینچ کر بولا، اے محمد!

سامنے آیا اور میان سے تلوار کھینچ کر بولا، اے محمد!
سامنے آیا اور میان سے تلوار کھینچ کر بولا، اے محمد!
سامنے آیا اور میان سے تلوار کھینچ کر بولا، اے محمد!

اب تم کو مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ نے فرمایا اللہ!

اب تم کو مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ نے فرمایا اللہ!
اب تم کو مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ نے فرمایا اللہ!
اب تم کو مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ نے فرمایا اللہ!

شکارت : زرہ - یوڈا، درخت - بکھ، اچانک - میان، خاپ، تلوار کھینچ کر - ترباری بے
شکارت : زرہ - یوڈا، درخت - بکھ، اچانک - میان، خاپ، تلوار کھینچ کر - ترباری بے
شکارت : زرہ - یوڈا، درخت - بکھ، اچانک - میان، خاپ، تلوار کھینچ کر - ترباری بے

اس عزم و استقلال کو دیکھ کر اس کے دل پر اس قدر خوف

ہو گیا کہ اس نے اپنے دل سے اس کے لیے ایک دعا لکھی اور وہ خود دہشت سے بیٹھ گیا۔
 اسے گھبراہٹ سے تلواریں ہاتھ سے چھوٹ گئی اور وہ خود دہشت سے بیٹھ گیا۔
 اسے گھبراہٹ سے تلواریں ہاتھ سے چھوٹ گئی اور وہ خود دہشت سے بیٹھ گیا۔

چھایا کہ تلواریں ہاتھ سے چھوٹ گئی اور وہ خود دہشت سے بیٹھ گیا۔

اسے گھبراہٹ سے تلواریں ہاتھ سے چھوٹ گئی اور وہ خود دہشت سے بیٹھ گیا۔

(۲) رواداری

راویاداری
 اداوارا

۱۔ جب طائف کے کافروں نے حضورؐ کی ایذا رسانی

۱. جب طائف کے کافروں نے حضورؐ کی ایذا رسانی
۱. جب طائف کے کافروں نے حضورؐ کی ایذا رسانی

میں کوئی کسر اٹھانہ رکھی۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کی کہ

میں کوئی کسر اٹھانہ رکھی۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کی کہ

ان کافروں کے لئے بد دعا کیجئے۔ آپؐ نے فرمایا

ان کافروں کے لئے بد دعا کیجئے۔ آپؐ نے فرمایا

میں دنیا میں لعنت نہیں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔

میں دنیا میں لعنت نہیں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔

شہادت : اشتہاری مجرموں - نواٹیشہاؤڈ اپراہی، ایشہاؤڈ اپراہی، مجبوراً - اپراہی، باہا ہئے، ہاگ کر -
 پالانو، حکموظو، نمانا، و سفا، جرائم - اپراہیسمو، سکل اپراہی۔

۲- ہبّار بن اسود وہ شخص ہے جس کے ہاتھوں حضرت کو بہت

۲. ہاکبار بین آسویاد وہ شخہ ہے جسکے ہاتھ ہیرت کو بھت
۲. ہاکبار بین آسویاد ای بآجی، یار ہاتے نبی (سا) بھ

دکھ پہنچے۔ خصوصاً آپ کی جگر گوشہ حضرت زینب

دوکھ پوہے۔ خسوسان آپ (سا) کی جگر گوشا ہیرت یینب (سا) کو
کھٹ پےہے۔ বিশেষت: نبی (سا)-اے کلجیہ ٹوکرا ہیرت یینب

رضی اللہ عنہا کو جب کہ وہ ہجرت کر کے مکہ سے مدینے

جب کہ وہ ہجرت کر کے مکہ سے مدینے
(سا) کہ یخن سے مکہ تھکے ہجرت کرے مدینے

تشریف لے جا رہی تھیں، تو اس نے ان کو اونٹ سے گرا کر

جا راہی تی، تو اسنے ان کو اٹ ھے گرا کر مارا تا۔ ان کہ
آسکھل، تখন سے تاکے اٹ تھکے فہلے دیے

مارا تھا۔ ان کے علاوہ اور مسلمانوں کو بھی اس نے سخت

آلاویاہ آوےر مسلمانو کو تی اسنے سخت تکلیفی پوہکاری تی۔
مہرہکل۔ اہڈا او انیانے مسلمانکے سے بھ کٹور

تکلیفیں پہنچائی تھیں۔ جب مکہ فتح ہوا تو ان کا نام اشتہاری

جب مکہ فاتاہ ہیا تو انکا نام ایشتہاری مجریمو مہ تا
نیریا تن کرہکل۔ یخن مکہ بیجی ہلو، تখন تار نام تالیکا بھج

مجرموں میں تھا۔ کہ وہ جہاں کہیں ملیں قتل کر دئے جائیں۔

کہہ وہ جاہا کاحی ملی کتل کار دیے جانی۔

اقرادیہر مارہ کل۔ یے، تادہرکہ یخانہی پاویا یاک نا کن، ہتا کرے فہلا ہبے۔

بند اہلاق، بیگت دینے، تصور وار - اقرادی، بھت، واسوبیک، واقعی، بھلکری - غلیو: شکار

- اٹناکرمے۔ اتفاق، سمپرن کر، طے - کٹاوارتا، بات چیت، ویادا پرن کر، ایفاے وعدہ، اٹناکری۔ اٹناکری۔

انہوں نے بہت کوشش کی کہ بھاگ کر ایران چلا جاؤں۔

آنہ نے بہت کوشش کی کہ کہ باگ کار ایران چلا یاو ۔
سے پالیے ایرانے چلے یاوےار جنے آہے آے آے کرل ۔

مگر ناکام رہے۔ آخر مجبوراً کسی طریقے سے بیچا کر حضورؐ کی

مگر ناکام راءے ۔ آاخر مجبوراً کسی طریقے سے بیچا کر حضورؐ کی
مگر ناکام راءے ۔ آاخر مجبوراً کسی طریقے سے بیچا کر حضورؐ کی

خدمت میں حاضر ہو گئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ! میں چاہتا تھا کہ

خدمت میں حاضر ہو گئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ! میں چاہتا تھا کہ
خدمت میں حاضر ہو گئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ! میں چاہتا تھا کہ

بھاگ کر ایران چلا جاؤں۔ مگر حضورؐ کا حلم و عفو سامنے آیا تو بھاگنے

بھاگ کر ایران چلا جاؤں۔ مگر حضورؐ کا حلم و عفو سامنے آیا تو بھاگنے
بھاگ کر ایران چلا جاؤں۔ مگر حضورؐ کا حلم و عفو سامنے آیا تو بھاگنے

اور دور رہنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ حضورؐ کو جو کچھ میرے جرائم

اور دور رہنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ حضورؐ کو جو کچھ میرے جرائم
اور دور رہنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ حضورؐ کو جو کچھ میرے جرائم

اور ناسزاوار باتوں کا پتہ لگا ہے اور میری غلطیوں کی جو

اور ناسزاوار باتوں کا پتہ لگا ہے اور میری غلطیوں کی جو
اور ناسزاوار باتوں کا پتہ لگا ہے اور میری غلطیوں کی جو

خبر حضورؐ کو پہنچی ہے وہ بالکل صحیح اور درست ہے۔

خبر حضورؐ کو پہنچی ہے وہ بالکل صحیح اور درست ہے۔
خبر حضورؐ کو پہنچی ہے وہ بالکل صحیح اور درست ہے۔

واقعی میں خطاوار اور قصوروار ہوں۔ مجھے اپنے جرموں

ওয়ারکےسے مایہ خاتاওয়ার آওয়ার کسور وয়ার ہ۔ مورے آپنے جورم
نیشچایہ آامی دومیہ اےبے اپراہیہ۔ آامی سہیہ اپراہ سہیکار کرہیہ۔

کا اعتراف ہے۔ مگر اب میں معافی کا خواستگار ہوں۔

কা ই'তিরاف ہے۔ مگر اب مایہ مایہ کا خاستے گار ہے

تবে এখন آامی (آپنار نیکٹ) ক্ষماপ্রার্থী

اور دین اسلام قبول کرتا ہوں۔ اب میرے لئے کیا

آওয়ার دین اسلام کبول کارتاہ۔ آاب مےرے لیے کیا

اےبے اسلام ধرم গ্রہণ کرہیہ، এখন آامار جنیہ کی

حکم ہے؟ آپ نے اس کے سب پچھلے جرائم معاف

ہکوم ہے؟ آپ (سا) نے انکے سب پیہلے جاراےم مایہ

ہکوم؟ نہیہ کریم سا. تار সকল بیगत अपराध क्षमा

کردئے۔ اس بلند اخلاق کو دیکھ کر

کار دیے۔ اس بولند آاخلاک کو دےخ کار

کرے دیلےن۔ اے اننت چریہ دےخ

وہ دین اسلام میں داخل ہو گئے۔

وہ دینے اسلام مے داخےل ہ گایے۔

سے তৎক্ষণাৎ ইসলাম ধর্মে অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল।

رضی اللہ عنہ

রাযিআল্লাহ আনহ۔

আল্লাহপাক তার উপর সম্ভুষ্ট হয়েছেন।

شمارب : ادھر - اےدیکے، اجنی - اپریحیت، دھوکہ - ڈھوکا، پرتارणा - پرتارणा، گھبراتے - بڑیہ پآویا،
ذیہ ہویا ممکن - سمبب، نام - لکجیت، عورت - مہیلا، بات - کٹھا، انپہارتق - ساتےر پراکاش۔

(۳) ایفائے وعدہ

ایفایے ویا'دای

(۷) ویا'دای یا اذکار رক্ষا کرا

ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم

اک ساہابی (را:) بیان کراتے ہہ کہ مای نے ہیر آکرام
اک ساہابی را. برنا کرا، امی نبی آکرام سالللاہ آلایہی ویا ساللام

صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ خرید و فروخت کی بات چیت کی۔

سالللاہ آلایہی ویاساللام ہہ کچ خرید ا فروات کی بات چیت کی ا
اے سنے کچھ کرای-بکرای سسپکرت کثابارتا بلی ا

معاملہ ابھی طے نہیں ہوا تھا کہ میں نے آل حضور سے

موااملا اابی توائ نہی ہیا تا کہ مای نے آ ہیر (سا) ہہ
لن-دن تখনو سیکانتے آسینی ا امی نبیجی سا. اے نکٹ

عرض کی کہ میں پھر آپ سے بات طے کروں گا،

ااری کی کہ مای فیر آپ (سا) ہہ بات توائ کاری گا ا
ااری کرایم یہ امی پری آپنار سنے کثابارتا سسپور کرای

ذرا گھر ہو آؤں آپ یہیں ٹھہرے رہئے۔

یرا ہر ہ آو آپ (سا) ایہی ہیرے راہہ ا
اکٹو ہر تہہ آسی، آپنی اٹانے آپنکا کراین ا

اتفاق سے گھر جا کر مجھے اپنا وعدہ یاد نہ رہا۔

ایتفاک ہہ ہر جا کای مواہ آپنا ویا'دای ایاد نا راہا ا
ہٹناکرایم ہری گری امار سوی ویا'دای سمرن ریل نا ا

تیسرے روز جب میں اس جگہ سے گذرا جہاں میں

تہذیرے رنج جب مایہ ایس جاگا ہے گویا جاہا مایہ
تৃতیی دن یخن آمی اے سٹان دیے یاسٹیلام، سےخانے

ان سے ملنے کا وعدہ کر آیا تھا، تو آں حضور کو موجود پایا۔

ان سے ملنے کا ویدا کار آیا آا آو آا ہیر (سا) کو موجدو پایا ا۔
نہیج سا۔-اے سٹے آمار سافاف کرار ویدا آیل، آخن نہیج سا. کے سےخانے وپسٹیل پیلام

آپ کو دیکھ کر میں بہت شرمندہ ہوا کہ نہ معلوم

آپ (سا) کو دےآ کر مایہ بھآ شرمیندا ہیا کے نا ما'لوم
نہیج سا۔-کے دےآے آمی اےجنی آوبہی لآجیل آہلام یہ، نا آانی

اپنے دل میں حضور کیا کہتے ہو گے! آپ نے مجھے

آپنے دل مے ہیر (سا) کیا کاہآے ہگے! آپ (سا) نے موبے
نہیج سا. منے منے کی آےبے آاکبےن ا۔ نہیج سا. آاماکے

دیکھ کر صرف اس قدر فرمایا کہ تم نے مجھے

دےآ کر آیریف ایس کدر فرمایا کے آوم نے موبے
دےآے گوڈو اآآو کو بللےن، آومی آاماکے

بہت تکلیف دی۔ میں تمہارے انتظار میں اس

بھآ آکلیف دی ا۔ مایہ آومہارے اینآےآار مے ایس
آوبہی کسٹ دیےآ۔ آمی آومار آپےسٹای اے

مقام پر تین دن سے موجود ہوں۔

مکام پر آین دن سے موجدو ہ۔

آایگای آین دن آے وپسٹیل آاآی ا۔

سٹے : آپمان، روبو، سنبھے وپسٹیلآے، برانیاں، منداآار، آاراپ کاکرکم،

آاآیآا، آاب، آدیک ڈےآے، برداآٹ، سہی، فیصلہ، سیدنا، میماآسا، آکیلا، اےکا اےکا ا۔

غرض وہ اپنے کئے پر پچھتائے اور نادم ہوئے۔ اس قافلے میں

گرمی وہ آپنے کیے پر پچھتائے اور نادم ہوئے۔ اس قافلے میں
 گرمی وہ آپنے کیے پر پچھتائے اور نادم ہوئے۔ اس قافلے میں
 گرمی وہ آپنے کیے پر پچھتائے اور نادم ہوئے۔ اس قافلے میں

ایک عورت تھی۔ اس نے کہا گھبراتے کیوں ہو؟ ڈرنے اور

ایک عورت تھی۔ اس نے کہا گھبراتے کیوں ہو؟ ڈرنے اور
 ایک عورت تھی۔ اس نے کہا گھبراتے کیوں ہو؟ ڈرنے اور
 ایک عورت تھی۔ اس نے کہا گھبراتے کیوں ہو؟ ڈرنے اور

افسوس کرنے کی کوئی بات نہیں۔ قسم خدا کی ایسا روشن چہرہ

افسوس کرنے کی کوئی بات نہیں۔ قسم خدا کی ایسا روشن چہرہ
 افسوس کرنے کی کوئی بات نہیں۔ قسم خدا کی ایسا روشن چہرہ
 افسوس کرنے کی کوئی بات نہیں۔ قسم خدا کی ایسا روشن چہرہ

ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ وہ دھوکہ باز کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔

ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ وہ دھوکہ باز کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔
 ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ وہ دھوکہ باز کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔
 ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ وہ دھوکہ باز کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔

یہ ممکن نہیں کہ اس جیسا انسان دھوکہ دے۔ جب رات

یہ ممکن نہیں کہ اس جیسا انسان دھوکہ دے۔ جب رات
 یہ ممکن نہیں کہ اس جیسا انسان دھوکہ دے۔ جب رات
 یہ ممکن نہیں کہ اس جیسا انسان دھوکہ دے۔ جب رات

ہوگئی تو آپ نے اونٹ کی قیمت کے برابر کھجوریں بھجوا دیں

ہوگئی تو آپ نے اونٹ کی قیمت کے برابر کھجوریں بھجوا دیں
 ہوگئی تو آپ نے اونٹ کی قیمت کے برابر کھجوریں بھجوا دیں
 ہوگئی تو آپ نے اونٹ کی قیمت کے برابر کھجوریں بھجوا دیں

اور ان لوگوں کے لئے کھانا بھی ارسال فرمایا۔

اور ان لوگوں کے لئے کھانا بھی ارسال فرمایا۔
 اور ان لوگوں کے لئے کھانا بھی ارسال فرمایا۔
 اور ان لوگوں کے لئے کھانا بھی ارسال فرمایا۔

اور ان لوگوں کے لئے کھانا بھی ارسال فرمایا۔
 اور ان لوگوں کے لئے کھانا بھی ارسال فرمایا۔
 اور ان لوگوں کے لئے کھانا بھی ارسال فرمایا۔

شکارت : اٹھ - پرہیز، اٹھ - ہمت، انیسٹ - کرنا، نمائند - نمائند، مقرر - مقرر، حاضر - حاضر،
 উপস্থিত، عرض - انورودھ، حکومت - حکومت، راجتو، حسین - سندرہ۔

(۵) اظہار حق

ایہہارے ہک

ساتہکے ہرکاش

روایت ہے کہ جب صدائے توحید نے بتوں کی دھبیا

ریویاات ہے کہے جب آادایے تویہی نہ بڑو کی ڈوآایا
برگیت آآھے، یখন اکتربادےر آویاآ مڑتیلولوکه آپمان

اڑانی شروع کر دیں تو قریش نے آپ کے چچا ابوطالب سے

اڈانی شور کاردی تو کورایش نے آپ (سا) کہے آاآ آابو تالےب آھے
کرتے شور کرل، تখন کورایشرا نہیآی سا۔آر آاآ آابو تالےبےر نہکٹ

جا کر شکایت کی کہ اپنے بھتیجے کو سمجھائیں۔ وہ ہمارے بتوں کو

آا کار شیکرات کی کہے آپنہ آاتیآے کو سمآای۔ اوہ ہمارے بڑو کو
گیے آبیلوآ کرل یے، آپنار آاتیآاکے بڑوان۔ سے آامادےر مڑتیکے

بُرا بھلا کہتا ہے۔ ابوطالب نے سمجھا بجھا کر ان کو واپس کر دیا۔

بڑا آالا کاتتا ہے۔ آابو تالےب نے سمآا بڑا کار اُن کو ویاپس کار دیا۔
گالمنڈ کرے۔ آابو تالےب بڑیے آنیے تادےرکے فیریے دل۔

مگر آں حضور اپنے فرائض ادا کرنے میں لگے رہے۔

مگر آں آڑور (سا) آپنہ فارایے آادا کارنہ مے لآگے رآھے۔

کینڈ آڑور سا۔ نہآ کرتبب پالنے رت ریلےن۔

چند روز کے بعد پھر بڑے بڑے آدمی جمع ہو کر ابوطالب

آانڈ رویہ کہے بانڈ فےر بڈے بڈے آادمی آما آ کر
کےکدین ہر پونرای نےتڑسٹانیل لولکےرا اکتریت ہے آابو تالےبےر

آند سمآرک۔ تعلق۔ پش کرے۔ آوآاموڈپورآ، آینی آیزی : شآارآ

۔کےکٹ، آرآے۔ آنوباد، وی۔ آئی باگی، آوے۔ فیرے آاسا، ہرتببآرتن کر۔

کے پاس پہنچے اور کہا کہ ہم تمہاری وجہ سے خاموش ہیں۔

آبوں آلبےب کے پاس پہنچے آوں کآہآ کے ہآم آومہآری وڈآہ ہے آآموش ہے
نیکٹ اےل آےبےب بآلآل آآمرا (کےبب) آومآر کآرآے آوپ کآرے آآہی |

مگر تم اپنے بھتیجے کو منع نہیں کرتے۔ ہم یہ کیوں کر

مآر آوم آپنے آآتیبے کوء مآنآ' نہہی کآرتے | ہآم ہیے کےٹ
کیآ آومی آپن آآتیبآکے نیآےب کآر آآ | آآمرا کیآبے

گوارا کر سکتے ہیں کہ ہمارے بتوں کی توہین خود ہمارے ہی

کآر آآوڈآرآ کآر سےکآتے ہے کے ہآمآرے بوآ کی آآوہی ن آوآ ہآمآرے ہی
آٹآ سہآ کآرتے آآری آے، آآمآدےر مڈرآر آپمآن آوڈ آآمآدےر ہی

رو برو کی جائے۔ ہمارے بزرگوں کو گمراہ اور ہم کو برا بھلا کہا

روء بروه کی آآے | ہآمآرے بوڈرآ کوء آوءمراه آآوں ہآم کوء برو آآلآ کآہآ آآے |
سآمنے کآرآ ہبے | آآمآدےر سمآنآت پورسوریدےر پآآڈسٹ آےب آآمآدےر سمآلوءآنآ کآرآ

جائے۔ ہم تمہاری عزت کرتے ہیں اس لئے خاموش رہے۔

ہآم آومہآری ہیڈت کآرتے ہے ہی سآلیے آآموش رآہے |
ہبے | آآمرا آومآکے سمآن آرے آآکی، آآہی آوپ آآہی |

اب ہم یہ باتیں زیادہ دنوں تک برداشت نہیں کر سکتے

آآب ہآم ہیے بآتیب ڈیڈآدآ ڈی نو آک بآرڈآسٹ نہہی کآر سےکآتے
آآن آآمرا آ سکل کآآ بےشآ ڈین پآرڈسٹ سہآ کآرتے آآری نآ |

اپنی بُرائیاں اپنے منہ پر سننے کی زیادہ تاب نہیں۔

آآپنآ بروڈیڈآ آآپنے مؤہ پآر سونے کی ڈیڈآدآ آآب نہہی |
نآبےڈےر مآنڈآآر نآبےڈےر سمآآآے شربآےر مات آآیک ڈیڈر نہہی |

بہتر ہے کہ تم اپنے بھتیجے کو سمجھا لو یا تم خود درمیان سے ہٹ جاؤ۔

بہتر ہے کہ تم اپنے بھتیجے کو سمجھا لو یا تم خود درمیان سے ہٹ جاؤ۔
بہتر ہے کہ تم اپنے بھتیجے کو سمجھا لو یا تم خود درمیان سے ہٹ جاؤ۔
بہتر ہے کہ تم اپنے بھتیجے کو سمجھا لو یا تم خود درمیان سے ہٹ جاؤ۔

در نہ تم دونوں میدان میں نکل آؤ تا کہ ہمارا تمہارا فیصلہ ہو جائے۔

وہاں تو تم دونوں میدان میں نکل آؤ تا کہ ہمارا تمہارا فیصلہ ہو جائے۔
وہاں تو تم دونوں میدان میں نکل آؤ تا کہ ہمارا تمہارا فیصلہ ہو جائے۔
وہاں تو تم دونوں میدان میں نکل آؤ تا کہ ہمارا تمہارا فیصلہ ہو جائے۔

ابو طالب نے دیکھا کہ اب حالت نازک ہو چلی ہے۔ قریش اب

ابو طالب نے دیکھا کہ اب حالت نازک ہو چلی ہے۔ قریش اب
ابو طالب نے دیکھا کہ اب حالت نازک ہو چلی ہے۔ قریش اب
ابو طالب نے دیکھا کہ اب حالت نازک ہو چلی ہے۔ قریش اب

کسی طرح ماننے والے نہیں۔ میں اکیلا سب کا مقابلہ کیوں کر کروں گا؟

کسی طرح ماننے والے نہیں۔ میں اکیلا سب کا مقابلہ کیوں کر کروں گا؟
کسی طرح ماننے والے نہیں۔ میں اکیلا سب کا مقابلہ کیوں کر کروں گا؟
کسی طرح ماننے والے نہیں۔ میں اکیلا سب کا مقابلہ کیوں کر کروں گا؟

آخر مجبور ہو کر آں حضور سے سارا حال بیان کیا اور کہا اے چچا کی جان!

آخر مجبور ہو کر آں حضور سے سارا حال بیان کیا اور کہا اے چچا کی جان!
آخر مجبور ہو کر آں حضور سے سارا حال بیان کیا اور کہا اے چچا کی جان!
آخر مجبور ہو کر آں حضور سے سارا حال بیان کیا اور کہا اے چچا کی جان!

آنکھوں کی ٹھنڈک! مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ میں اس کو اٹھا بھی نہ سکوں!

آنکھوں کی ٹھنڈک! مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ میں اس کو اٹھا بھی نہ سکوں!
آنکھوں کی ٹھنڈک! مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ میں اس کو اٹھا بھی نہ سکوں!
آنکھوں کی ٹھنڈک! مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ میں اس کو اٹھا بھی نہ سکوں!

آں حضور یہ سنکر آنکھیں بھرا لائے اور فرمانے لگے، چچا جان!

آں حضور یہ سنکر آنکھیں بھرا لائے اور فرمانے لگے، چچا جان!
آں حضور یہ سنکر آنکھیں بھرا لائے اور فرمانے لگے، چچا جان!
آں حضور یہ سنکر آنکھیں بھرا لائے اور فرمانے لگے، چچا جان!

شکارت : ۛ تحریر - دلآیل، زبان - مؤخ، بلکہ - ہرر، نماآیل - ہرتآیل، حائلصین - ہلرولہل ہلرولہل،

شکارت : ۛ تحریر - دلآیل، زبان - مؤخ، بلکہ - ہرر، نماآیل - ہرتآیل، حائلصین - ہلرولہل ہلرولہل،
شکارت : ۛ تحریر - دلآیل، زبان - مؤخ، بلکہ - ہرر، نماآیل - ہرتآیل، حائلصین - ہلرولہل ہلرولہل،

آپ کیا فرماتے ہیں۔ اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں

آپ کیا فرماتے ہوں۔ آگار ایسے لوگ مےرے اک ہاتھ مے
آپنی کی বলেন۔ یڈی ا لوءکےرا آمار اک ہاتھ

سورج اور دوسرے میں چاند بھی لا کر رکھ دیں،

سورج آاور دوءرے مے چانڈ ڈی لا کار راکھ ڈی
سورج ابرھ آپر ہاتھ چانڈ اےنے ڈےے،

تب بھی میں اپنے فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کروں گا۔

تب ڈی مای آپنے فرارےے کی آڈاڈےگی مے کوءاہی نا کاروگا۔
تھاپیو آمی نیج کرتبآ پالنے ڈرڈی کررر نا۔

اے خدا! تو ہی اپنے کام کو پورا کریگا یا میں اس راہ میں

آے آوءا! ڈوہی آپنے کام کو پورا کارے گا ایسا مای ایس راہ
ہے آوءا آپنیہی سبب کاربکے پریرپور کرے ڈین۔ انبآھای آمی اے راسآای

قربان ہو جاؤں گا۔ آپ کی ان باتوں کا اثر ابوطالب کے

مے کوربان آ جاو گا۔ آپ کی این باتو کا آاھر آابو ڈالےب کے
کوربان ہےے یاب۔ نبی سا۔ اےر اڈو کھآوڈلیر ڈرڈیکریا آابو ڈالےبےر

دل پر اس قدر ہوا کہ اُن کو بھی کہنا پڑا، اچھا اپنا کام

ڈیل پر ایس کڈر آا کہ اُن کو ڈی کھنا ڈا۔ آاآھا آپنا کام
اسآرے اےت ڈرڈاب سڈڈی کررل یے، ڈاکے بلڈے آل، ڈڈک آاآھے، نیجےر کاج

کئے جاؤ۔ کوئی شخص تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔

کیے یاو۔ کوئی شآس ڈومھارا کوء نہی بیگاڈ سیکڈا۔
چالےے یاو۔ کوء ڈومار کوان آڈڈی کررڈے پاربے نا۔

شکارب : اڈاڈا - ہڈاڈ، آڈر - شےب، مڈووم - اڈآاچارڈڈ، اڈاڈا - ڈڈڈناڈرڈمے، ڈڈڈڈے - اڈوڈولڈڈ،
ڈڈڈے، بےر کرے، ڈوچھا - ڈڈڈےس کررل، ڈرڈھائی - آاڈرڈمڈ، ڈیصلہ - سڈڈاڈو، ڈڈڈوئی - ڈڈڈپڈڈی۔

قریش نے جب کسی طرح اپنی دال نہ گلتی دیکھی تو عقبہ کو اپنا

کوراہشا نہ جب کہی توراہ آپانی دال نا گلتي دکھي تو اڪبا كو آپانا
کوراہشرا یخن کوناباوی تادەر ڈال گلتي دہخل نا تখন اڪباکے تادەر

نمائندہ مقرر کر کے آپ کی خدمت میں بھیجا۔ اس نے حاضر ہو کر

نومایہندا مکارررار کارکے آپ (سا) کی خہدمت مے ہيجا۔ اُمنہ ہاھیر ہ کار
پراتینہی نییوؤ کورے ہیر سا۔-اےر خہدمتے پاٹال۔ سے اُپسٹیت ہیے

عرض کی اے محمد! تم یہ بتاؤ کہ آخر چاہتے کیا ہو؟ کیا مکے کی حکومت

اارہ کی، اای موراہدا! توم ایے باتاؤ کے آخہر چاہتے کیا ہ؟ کیا مکرے کی ہکومت
بالل، "ہے موراہدا! تومی اٹا بل، تومی شہس پاریؤ کی چاؤ؟ تومی مکارر ہکومت

پسند ہے؟ یا کسی بڑے خاندان کی کسی حسین لڑکی سے شادی کرنا

پہندا ہے؟ اییا کہی بڈے خاندان کی کہی ہاسین لادکی ہے شادی کارنا
پہندا کور؟ اٹبا کون بڈ لاکور سوندری مےیکے بیباہ کورتے

چاہتے ہو؟ یا بہت سی دولت لاکر ہم تمہارے سامنے ڈھیر کر دیں؟

چاہتے ہ؟ اییا بالٹ ہي داولت لا کار ہام تومہارے سامنے ڈےہر کاردی؟
چاؤ؟ نا کی، بلھ دن-سمنپد انے امارا تومار سامنے سٹپ کورے ڈےہ؟

ہم تمہاری ہر بات ماننے کو تیار ہیں۔ تم کسی طرح ہمارے معاملات

ہام تومہاری ہار بات ماننے کو تیار ہے۔ توم کہی تاراہ ہامارے موراہملاٹ
امارا تومار سب کٹا مانار جنی پمٹت اہی۔ (توی) تومی کابل امارادے ریتینیتیتے

میں دخل دینا چھوڑ دو اور ہمارے بتوں کی بُرائیاں نہ کیا کرو!

مے دخل دنا ہوڈ دو آاور ہامارے بوتو کی بوراہیا نا کیا کورو۔

ہمٹمفپ تھکے ڈرے تاک اےب آامادے مورتیر نینداباد کور نا۔

شدارث : ہیا ب - تھفگاٹ، فوراً - ہر ہتے پارہے نا، نہیں نکل سکتا، ہرے گہے، ہوکے ہیں -
اسٹیر، خاموش، انوش، اراق، پٹٹا/پاتاگول، آنو، اشرف، چوخر پانی۔

آں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چکنی چڑی باتوں کے

آں ہضور (سا) نے اون تامام چاکنی چھپری واتو کے
نبرجی سائلا لائآ الائہی وياسالام ا سمسؤاؤا امءمءرء كرءاءارءار

جواب ميں صرف يه فرمايا : ميں تو خدا كا پيغام لے كر آيا ہوں،

جواب مے ہرےف ہئے فرمايا : ماہتو آودا كا پيغام لے كار آيا هو،
جوابے شؤو اءا باللےن، امي تو آودا تا'الار وارءا نيے اسةحي ا

جو چیزیں تم پیش کرتے ہو مجھے ان سے کیا تعلق؟

جؤ اءي توام پেশ كارءے هؤ مؤوے اون هے كيا تاائلوك؟
يےسار فيصيؤاؤاؤا پेश كرھ، سهؤولير سؤے आमर كي सम्पर्क आहे?

پھر آپ نے قرآن مجید کی چند آیتیں پڑھیں جن کا ترجمہ یہ ہے۔

فر آپانے كورآن مآئیء كي آانء آياءي پؤھي آين كا ءرآما ہئے هے :
اؤ:পর তিনি كورآن مآئیءءءر كےكءي آياءا পাঠ كرلےن، يار ارء نيمرررررر:

اے محمد! کہہ دو، میں تم ہی جیسا آدمی ہوں۔ مگر مجھ پر

آي مؤامء! كاھ ءو، ماہ ءومہي آےہا آاءمئ هؤ ا مگر مؤا পর
هے مؤامء! آپاني بلے ءين، امي ءواماءءر مءہي مانوش، ءبے आमर ऊपर

وحی آتی ہے۔ کہہ دو، تمہارا خدا بس وہی ایک خدا ہے۔

وہي آءي هے a كاھ ءو، ءوامہارا آودا بس اہي اءك آودا هے a
وہي ناويل ہي; بلے ءين، ءواماءءر آودا كےبلہي اءك آودا!

لہذا اس کی طرف رجوع کرو، نیک کام کرو اور اس کے ساتھ

لےہايا ہسكي ءررر رآؤو كارو، نءك كام كارو آاور اؤس كے هاء
سؤءراؤاؤا ءاؤر ءيءے فيرے آاس a سءكاآ كر اےبء ءار سؤے

شءارء : اثر - ءءاآيءا، ءءااب، كيءيت، اےبھسا، ءررر، مال، آاكؤء، ءااباء، آءء، كءورءا، ءشءر
-نہررءا، نیرءيءا، ءءك، كراءاء، ہاء ءارا آاآاء كرا، فكر لاق، اءبءبء،

(۶) صبر

حبر

ذیر ڈارن

روایت ہے کہ قریش نے باہمی سازش اور مشورے کے بعد یہ

رہوڑاڑاٹ ہہ کہہ کورائش نہ ہا ہامہ ہارہش آاور مشوڑاڑاٹ ہہ ہا'د ہڑے ہرہٹ آاھہ ہہ، کورائشرا ہرہسپر اڑکامٹ اہہ ہرہارہشہر ہر ا سہڈاٹہ

طے کیا کہ محمدؐ اور ان کے خاندان سے لین دین، خرید و فروخت

ٹوہ کڑا کہہ مشامد (سا) آاور انکہہ ہاندان ہہ لہن-دہن، ہرہد او ہرہوآٹ اڑپنہٹ ہل ہہ، مشامد سا. اہہ ہار ہشہر ہسہہ لہن-دہن، کڑہ-ہکڑہ اہہ

اور سب معاملات بند کر دئے جائیں۔ چنانچہ سب معاملات

آاور حبر مشامالاط ہند کار دہڑے آڑہ۔ ہناہہ سہ مشامالاط سہرہکار آادان-ہرہان ہک کہہ دہڑا ہہہ۔ سہ مٹہ سہرہکار لہن-دہن ہک

ترک کر دئے گئے۔ یہاں تک کہ کھانے پینے کی چیزیں بھی میسر

ٹرک کار دہڑے آڑہ۔ ہڑاٹا ٹک کہہ ہانہ ہہنہ کہہ ہہ ہہ ہہ مشامسار کہہ دہل۔ اہنکہ ہانہارہر ہسٹولہو (ٹارا سہہہ ہہٹہن نا۔ کورائشدہر

نہ آسکتی تھیں۔ قریش کا یہ معاہدہ صرف زبان ہی تک نہ تھا،

نا آا سہکٹہ ہہ۔ کورائش کا ہڑے مشاماداه سہرہف ہہان ہہ ٹک نا ہا۔ اڑکٹہ شڈو مشوہک ہہل نا ہرہ ا دلہل کا'ہا ہرہر دہرآار اڑر ہرمان سہرہ

بلکہ یہ تحریخانہ کعبہ کے دروازے پر نمایاں طور سے لکھ کر لگا دی

ہلکہ ہڑے ٹاہرہر ہانہے کا'ہا کہہ دہرہڑاٹہ ہر ہنماڑا ٹور ہہ لہٹ کار لآا دہ لہٹہ دہوڑا ہڑےہہل، ہاٹہ سکل ہسلام ہرہوہہ اڑر اڑر آامل کہہ۔

شکارٹ : نرہ - اڑٹا شادہ آانلاہ آاکہار ہنا، طاٹور - شکتشالہ، کہلم کلا - ہرہاشو، آنساموہہ، ہٹفہ - آادہرہہنٹا۔ ہہٹہ - ہرہ، آادہرہہ، آادورہ، دہرہٹہ - آابہگمڑہ، آاشہک۔

گئی تھی تاکہ سب سے مخالفین اسلام اس پر کاربند ہوں۔

گای تھی، تاکہ سب موخالیفینہ اسلام اس پر کاربند ہوں۔

کوراہشرا یখন بنی ہاشمہدہر سہسہ لہن-دہن باد دیہے دیل، تখন تادہر

قریش نے بنی ہاشم سے جو معاملات کیا ترک کئے کہ ان پر

کوراہش نے بنی ہاشم سے جو موامہلات کیا تہک کیہے کہہ ان پر
اوپر مہیبتہر اہک اٹی ہاہاڈ ہہسہ ہڈل۔ مہکاباسی سکہلہہ تادہر (ہنو

مصیبتوں کا ایک پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ اہل مکہ سب کے سب

موسیبتو کا اہک ہاہاڈ ٹوٹ ہڈا۔ آہلہ مہکا سہکے سہ
ہاشہمہر) دوشمن ہنہ گہل۔ ہنو ہاشہم گوہرہر لوہکراو مہکار آہاسسٹلکہ

ان کے دشمن ہو گئے۔ بنی ہاشم نے مکہ کی سکونت کو خیر باد

انکہ دوشمن ہ گایہ۔ ہنی ہاشہم نہ مہکے کی سکونت کو ہاہرہاد
ہیдай جانالہن اہہ آہو تالیہرہر ہاٹیتہ گیہے آہشہر نیلہن اہمنکی اہک اٹی

کہا اور شعب ابی طالب میں جا کر پناہ لی۔ یہاں تک کہ

کہا آوہر شوآہہ آہی تالیہر مہ جا کار ہاناہ لی۔ ہہاتک کہ
اوپتہکا یا ہنو ہاشہم گوہرہر ہہٹریک سٹرہ ہراوٹ ہیل، تاو آہاد ہہے گہل۔

ایک درے میں جو بنو ہاشم کا موروثی چلا آرہا تھا، آباد ہو گئے۔

اہک دہرہہ مہ جو ہنو ہاشم کا ماوہرہی ہلا آہراہا ہا۔ آہاد ہ گایہ۔
نہی کاریم سا. سہخانہ ہاکا آہہسٹاہ تین ہہرہہ کہٹہ گہل۔ اہ سہرہ تہنی ہڈ

آں حضور کو یہاں رہتے تین سال کا عرصہ ہو گیا۔

آں ہہرہ (سا) کو ہہاہا راہتہ تین سال کا آہرسا ہ گایہ۔
ہڈ دہوٹ کہٹہر سہمٹہہن ہلہن۔ تہہ سہگولہ سہ آہللاہ تا'آہلار ساہاہیہ

شہارث : ہے ہین - آہسٹہر، ہیشاہسٹہ، ہاکیزگی - ہہہٹہر نہکلوہ، ہہام - ہہام، ہشہہ ہسٹاہ، ہے
تہہ - لالیٹ-ہالیٹ ہہےہیل۔ منٹور - گہہت، مہٹور، رضامندی - سہسٹہٹہ، مہر - مہر۔

اس اثنا میں بڑی بڑی تکالیف کا سامنا ہوا، مگر سب اللہ تعالیٰ کی

ہس آاھنا مہ بڈٲ بڈٲ تاکالیف کا سامنا ھٲا۔ مگر سب آاللہ تآالآا کٲ سہج ھٲے گهل۔ آانا-ٲنار سامآٲا ھاتہ آاسلہ ٲاناھار کرہھن، انٲآھآٲ

مدد سے سہل ہو گئیں۔ کھانے پینے کا سامان ہاتھ آگیا تو کھاپی لیا،

مدد ھہ سہل ھ گآٲ۔ آانہ ٲنہ کا سامان ھآھ آا گٲ لٲا۔ کٲکدٲن ٲابہٲ اناھارہ رٲہھن کآٲ شٲش ھٲرٲ آاتٲما رآٲآاللہ انھآ

ورنہ کئی کئی روز فاقے سے گزر جاتے تھے۔ تھی بچی حضرت

وٲار نا کآٲ کآٲ رٲٲ آاکہ ھہ وٲر ٲاتہ ٲہ۔ نانٲٲ باآٲ ھٲرٲ آہ ٲٲدہ نٲآ ٲٲا-ماتار سآہ شرٲک ھٲلہن۔ آکبار ھٲرٲ آادٲآا

فاطمہ رضی اللہ عنہا بھی اس مصیبت میں اپنے ماں باپ کی

آاتہما (راہ) آٲ ھس مؤسٲبٲ مہ آاٲنہ ما باٲ کٲ رآٲآاللہ انھآ آہ آاتٲآا ھآکٲم ھبنہ ھآٲام را۔ کٲھ گم سٲٲٲ گولامہر

شریک حال تھیں۔ ایک مرتبہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے

شرٲکہ ھال ٲٲ۔ آک مرٲبا ھٲرٲ آادٲآا (راہ) کہ ماآٲمہ ٲاآالہن۔ آابو آاھل تا کونہ وٲاٲہ دہآتہ ٲلہ آہٲ گولامکہ

بھتیجے حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ نے کچھ گیہوں اپنے غلام کے

آاتٲآہ ھآکٲم بن ھٲام (راہ) نہ کٲچ گہ آاٲنہ گولامکہ وٲا نٲہ ٲہتہ باآا دل۔ آآناآرہمہ سہآانہ انٲ آک ٲآآٲو آل۔ ٲدٲو

ہاتھ بھیجے۔ ابو جہل نے کہیں دیکھ لیا اور غلام کو لے جانے سے

ھآھ آٲآہ۔ آابو آاھل نہ کآٲ دہآ لٲا آا وٲر گولام کولہ آانہ ھہ سہو ٲرہوآٲ ھٲل، تاآاٲٲا تار دٲا ھل آہٲ سہ آابو آاھلکہ ٲللہ ٲہ، آک

شآدآٲ : زرہ - لولار آاما، ھآٲہ میں آٲٲ، ھآتہ آسہآٲل، آنگ بدر - ٲدر ٲٲک، آٲو اور آٲو - آاٲن ٲرٲٲ، ھآٲٲٲ - آٲٲٲٲٲٲ، مالٲکٲ - مالٲکاناآٲٲ، آال - آٲٲٲٲٲٲ، آامڈا، آٲٲٲٲٲٲ، آاٲن ٲرٲٲ، آالک-آالکٲا، مالٲکٲ

রুকা - اتفاقاً وہاں ایک اور شخص بھی آنکلا۔ گو وہ بھی مخالف تھا، لیکن

রুকা। ইত্তেফাকান ওয়াহা এক আওর শখছ ভি আ নিক্লা, গো ওহ ভি মুখালেফ থা। লেকিন ব্যক্তি তার ফুফুকে কিছু গম পাঠাচ্ছে, তুমি কেন (তাতে) বাধা দিচ্ছ? অবশেষে

اس کو رحم آیا اور اس نے ابو جہل سے کہا کہ ایک شخص اپنی پھوپھی کو

উসকো রহম আয়া আওর উসনে আবু জাহল ছে কাহা কে এক শখছ আপনি ফুফী কো দুশমনদের যখন নিজ হতেই খেয়াল হল তখন তারা মজলুমদেরকে মক্কায় ফিরে

کچھ گیہوں بھیجتا ہے، تو کیوں روکتا ہے؟ آخر دشمنوں کو خود ہی خیال آیا

কুচ গেছ ভিজতা হে। তো কেউ রুকতা হে? আখের দুশমনো কো খোদহী খিয়াল আয়া যাওয়ার অনুমতি দিল।

تو انہوں نے ان مظلوموں کو مکہ واپس جانے کی اجازت دیدی۔

তো উনছ নে ইন মায়লুমু কু মক্কা ওয়াপেছ জানে কি ইজায়ত দে-দি।

(৫) شجاعت

শুজাআত

বীরত্ব

روایت ہے کہ اسلام سے قبل ایک دن غصے میں آکر

রিওয়ায়াত হে কে ইসলাম ছে কাবল এক দিন গোস্‌সে মে আ কার

বর্ণিত আছে, ইসলাম গ্রহণের পূর্বে একদিন রাগান্বিত হয়ে

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے

হযরত উমর (রাঃ) নে আঁ ছয়ূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে

হযরত উমর রা. নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে

शब्दार्थ : بیٹی - মেয়ে, جہیز - উপঢৌকন, تپے - کھجور کے پتے, لوتہ - خاجুরের পাতা, لوٹا - धातव वा माट्टिर पान,

چکیاں - याँता। اجازت - अनुमति सम्मति, छिट्टी - छिट्टी दल, बेहतर - उत्तम, बेतकफ़ी - अनाडमर।

قتل کا ارادہ کیا۔ تلوار کھینچے ہوئے اس ارادے سے نکلے کہ

কতল কা ইরাদা কিয়া। তলওয়ার খিচে হুয়ে ইসএরাদে ছে নিকলে কে
হত্যা করার ইচ্ছা করলেন। তলোয়ার উত্তোলিত করে এ উদ্দেশ্যে বেরিয়ে গেলেন।

اتفاق سے ایک صحابی حضرت نعیم رضی اللہ عنہ راستے میں مل گئے۔

ইত্তেফাক ছে এক সাহাবী হযরত নুআইম (রাঃ) রাস্তে মে মিল গায়ে।
ঘটনাক্রমে এক সাহাবী হযরত নাসিম রা.-এর সঙ্গে রাস্তায় সাক্ষাত হল।

انہوں نے پوچھا کہ عمر! خیر تو ہے؟ کدھر چڑھائی کرنے کا

উনহু নে পুছা কে উমর! খাইর তো হে? কেধার চড়হায়ি কারনে কা
তিনি জিজ্ঞেস করলেন, হে উমর! ভাল আছ তো, কোথায় আক্রমণ

ارادہ ہے؟ حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ محمدؐ کا فیصلہ کرنے جاتا ہوں۔

ইরাদা হে? হযরত উমর (রাঃ) নে ফরমায়া কে মুহাম্মদ (সা) কা ফায়সালা কারনে জাতা হু।
করার ইচ্ছা? হযরত উমর রা. বললেন, মুহাম্মদের ফায়সালা করার জন্য যাচ্ছি।

انہوں نے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو، خود تمہاری

উনহু নে কাহা কে পহলে আপনে ঘর কি তু খবর লু। খোদ তুমহারি
তিনি বললেন, প্রথমে নিজের ঘরের খবর তো নাও। স্বয়ং তোমারই

بہن فاطمہ اور تمہارے بہنوئی سعید بن زید مسلمان

বহিন ফাতেমা আওর তুমহারে বহনুবী সাঈদ বিন যায়দ মুসলমান
বোন ফাতিমা এবং তোমার ভগ্নিপতি সাঈদ ইবনে যায়েদ মুসলমান

ہو چکے ہیں۔ حضرت عمرؓ یہ سنتے ہی غصے سے بیتاب

হু চকে হে। হযরত উমর (রাঃ) ইয়ে সুনতে হি গোস্‌সে ছে বেতিয়াব
হয়ে গেছে। হযরত উমর রা. এ কথা শুনা মাত্রই রাগে অস্থির

রیت। ইসলাম-রাہ اسلام, -দেখেছিল, دکھائی, -উদাহরণ, مثال। -আদর্শ, দৃষ্টান্ত, نمونہ : -شمارہ
-রীতি-নীতি, گدان, -فولدانی, -پوشپپাত্র, -تموں, -এতীমেরা এতীমগণ, -ازاد, -স্বাধীন।

ہو کر فوراً بہن کے گھر پہنچے۔ وہ بلند آواز سے قرآن شریف

ہو کار فاوران بھین کے دھر ٲوہتے ۔ وھ بولند آوٹایا ہے کورآن شریف
ہے تہنگھات بونہر وادیتے گہلن ۔ تہنہ (ؤمر ہر آگمہنہر سہمے) کورآن شریف

ٲڑھ رہی تھیں۔ حضرت عمرؓ کی آواز سنکر خاموش ہو گئیں

ٲڈھ راہی تھی ۔ ہہرہت ؤمر (راہ) کی آوٹایا سونکار آاموش ہو گایہ
ٲڈھیلن ۔ ہہرہت ؤمر را۔ہر (آگمہنہر شہد ٲنہ تہنہ چٲ ہے گہلن

اور قرآن شریف کے اوراق کو چھپا دیا۔ آتے ہی کہا

آوہر کورآن شریف کے آوہراک کو آوہٲا دہیا ۔ آتہ ہہ کآہا
ہہہ کورآن شریفہر ٲاتاٲولہ لٲکیہے فہلہلن ۔ ؤمر را۔ ہسہہ ہلہلن

مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم دونوں مسلمان ہو چکے ہو۔

مٲوہ ما'لوم ہڑا ہہ کے تٲم دٲنٲ مٲسلمان ہ چکے ہ ۔

آمار منہ ہآہے تٲوہرا ؤہہےہ مٲسلمان ہے گہھ ۔

یہ کہہ کر بہنوئی سے لپٹ گئے اور ان کو مارنا پیٹنا شروع کیا۔

ہے کآہکار ہہنٲہی ہے لہٲہٹ گایہ آوہر ؤنکو مارنا ٲہٹنا ٲورٲ کہیا ۔

ہٹا ہلہہہ ہٲٲہٲہتہ کڈہے دہرہلن ہہہ تآکے مار-ٲہٹ کہرہلن ۔

بہن بچانے کے لئے سامنے آئیں تو وہ بھی زخمی ہو گئیں۔

ہہن ہآچانٲوہ کے لہے سآمنہ آہی تٲوہ ہہ ہآآمہی ہ گایہ ۔

ہون تآکے رآآفا کہرار کٲنٲ سآمنہ آاسلہ تہنہو آآہت ہے گہلن ۔

آخر بہن نے آنسو بہاتے ہوئے کہا، اے میرے بھئیّا!

آآہہر ہہن نہ آآسو ہآہآتہ ہے کآہا ۔ آہ مہرہ ہآہہا!

آہشہسہ ہون کآدتہ کآدتہ ہلہلن، ہہ آمار ہآہ!

شہدآرآ : شوق - ؤہسآہ، آآہہہ، ٲہہد، فآد، آہرآوہم، سہرٲوہم، آوہت، مانہتا، ہن گئے، ہے گہل،
ہمارے ہہی ۔ آماردہر نہہی ۔

حضرت عمر اسی وقت آں حضورؐ کی طرف گئے۔ تلوار ہاتھ میں تھی،

ہیڑت عمر ایسی ویاقت اُا ہیر کی ترلف ٲاے۔ تلویار ہاتھ مے ہا۔
ہیڑت عمر را۔ تখন نبیؐ سا۔ اےر نیکٹے ٲلن، تখন تلوایار ہاتھ ہل۔

دروازے پر دستک دی۔ صحابہؓ کو فکر لاحق ہوئی کہ عمر کا آنا

درواے ٲر دستک دی۔ ساہابا (راؑ) کو فیکر لاهک ہیر کے عمر کا
دوڑار اٲر آہات کرلن۔ ساہاباے کیرام را۔ اٹٹاٹٹت ہلن ے،

خالی از علت نہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آنے دو،

آن۔ خالی آہ ائلٹ نہہ۔ ہیڑت ہامیا (راؑ) نے کاہا کے آنے دو
عمر ہنا کارٲے آسےنی۔ ہیڑت ہامجا را۔ ہلن، عمرکے آسٹے داو۔

کوئی کھٹکا نہیں۔ اگر نیک نیتی سے آیا ہے تو بہتر،

کوی خٹکا نہہ۔ آٲار نک نیڑٹت ہے آہا ہے ٹو ہہتر،
کون اسوہا نہہ۔ ہاڈ سٲ اڈدشے اےسے ٹاکے، تہے ٹو ہل،

ورنہ اس کی تلوار سے اس کا سر قلم کر دوں گا۔

ویارنا اسیکی تلویار ہے اسیکا ہےر کلم کار دوٲا۔
انٹھایاں تار تلوایار دھراہی تار ماٹا ڈٹٹٹت کرے دیہ۔

حضرت عمر نے اندر قدم رکھا تو آں حضورؐ خود آگے بڑھے

ہیڑت عمر نے آنڈر کدم راکھا ٹو اُا ہیر (ساؑ) خوڈ آٲے ہاڈہے
ہیڑت عمر را۔ ہتہرے ٲا راکھا ماتر نبیؐ سا۔ نیجےہی سامنے اٹسہر ہلن

اور ان کا دامن پکڑ کر پوچھا، کہو عمر! کیسے آنا ہوا؟

آوہر اُنکا دامان ٲاکڈ کر ٲوہا، کالھ عمر! کےہے آنا ہوا؟
اےوٹ تار کاٲڈہر آااٹل دہرے جیٲےس کرلن۔ ہل ہے عمر! کی جنٹ اےسےہ؟

شمارٲہ : - راء و غیٹ و غضب - اٹتےجٹ - آگ بولہ - ٲااار و ٲسار - اشاعت و تبلیٲ - اٹتہاس - تاریخ
اٹٹٹاٲ - ہٹاہ - ہٹس ہےے یاوہا - عزت - سممان - خاندان - ہٲشا - خلاف - ہٲرہے، موکاہلایا۔

حضرت عمرؓ پر اُس وقت کچھ ایسا رعب طاری ہوا کہ کانپنے لگے

ہجرتِ عمر (راہ) پر اُس وقت کچھ ایسا رعب طاری ہوا کہ کانپنے لگے۔
ہجرتِ عمر (راہ) پر اُس وقت کچھ ایسا رعب طاری ہوا کہ کانپنے لگے۔

اور نہایت عجز سے کہا، میں تو ایمان لانے کے لئے آیا ہوں۔

آپ اور نہایت عجز سے کہا، میں تو ایمان لانے کے لئے آیا ہوں۔

آپ اور نہایت عجز سے کہا، میں تو ایمان لانے کے لئے آیا ہوں۔

آں حضورؐ نے فرمایا ”اللہ اکبر“ پھر تمام صحابہؓ نے اس زور سے نعرہ

آں حضورؐ نے فرمایا ”اللہ اکبر“ پھر تمام صحابہؓ نے اس زور سے نعرہ
آں حضورؐ نے فرمایا ”اللہ اکبر“ پھر تمام صحابہؓ نے اس زور سے نعرہ

لگایا کہ مکے کی تمام پہاڑیاں گونج اٹھیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ

لگایا کہ مکے کی تمام پہاڑیاں گونج اٹھیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ

لگایا کہ مکے کی تمام پہاڑیاں گونج اٹھیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ

کے ایمان لانے کے بعد اسلام بہت طاقتور ہو گیا۔

کے ایمان لانے کے بعد اسلام بہت طاقتور ہو گیا۔

کے ایمان لانے کے بعد اسلام بہت طاقتور ہو گیا۔

مسلمان جو ادھر ادھر چھپ چھپا کر نماز پڑھا کرتے تھے ان سب کو

مسلمان جو ادھر ادھر چھپ چھپا کر نماز پڑھا کرتے تھے ان سب کو

مسلمان جو ادھر ادھر چھپ چھپا کر نماز پڑھا کرتے تھے ان سب کو

حضرت عمر رضی اللہ عنہ خانہ کعبہ میں لے گئے اور کھلم کھلا نماز ادا کی۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ خانہ کعبہ میں لے گئے اور کھلم کھلا نماز ادا کی۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ خانہ کعبہ میں لے گئے اور کھلم کھلا نماز ادا کی۔

ظلم و ستم - جُلوم و اत्याچار ۔ نانا प्रकार विपद, مصیبتیں - خاطر, - बिपद, خطر : سدार्थ ।

نیریاتیت ব্যক্তি - پیارے, पशम, - शरीরের लोम, - روکنے, - मेने नेওয়া, - सह्य करा, - برداشت

جب ان کی عمر اٹھارہ سال کی ہوئی تو شادی کے پیغام آنے لگے۔

جب ان کی عمر آٹھارہ سال کی ہوئی تو شادی کے پیغام آنے لگے۔

جب ان کی عمر آٹھارہ سال کی ہوئی تو شادی کے پیغام آنے لگے۔

مگر حضورؐ کے دل میں کچھ اور ہی بات تھی۔

مگر حضورؐ کے دل میں کچھ اور ہی بات تھی۔

مگر حضورؐ کے دل میں کچھ اور ہی بات تھی۔

خیال یہ تھا کہ اس کے لئے ایسا ہی جوڑ کا لڑکا ملے۔

خیال یہ تھا کہ اس کے لئے ایسا ہی جوڑ کا لڑکا ملے۔

خیال یہ تھا کہ اس کے لئے ایسا ہی جوڑ کا لڑکا ملے۔

یہ حضرت علیؑ تھے جو حضورؐ ہی کے سائے میں پلے تھے۔

یہ حضرت علیؑ تھے جو حضورؐ ہی کے سائے میں پلے تھے۔

یہ حضرت علیؑ تھے جو حضورؐ ہی کے سائے میں پلے تھے۔

حضرت علیؑ نے اپنی درخواست پیش کی تو وہ گویا پیش ہونے سے

حضرت علیؑ نے اپنی درخواست پیش کی تو وہ گویا پیش ہونے سے

حضرت علیؑ نے اپنی درخواست پیش کی تو وہ گویا پیش ہونے سے

پہلے ہی منظور ہو چکی تھی۔ حضورؐ نے بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا سے

پہلے ہی منظور ہو چکی تھی۔ حضورؐ نے بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا سے

پہلے ہی منظور ہو چکی تھی۔ حضورؐ نے بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا سے

دریافت کیا تو وہ چپ رہیں۔ یہ گویا رضامندی کا اظہار تھا۔

دریافت کیا تو وہ چپ رہیں۔ یہ گویا رضامندی کا اظہار تھا۔

دریافت کیا تو وہ چپ رہیں۔ یہ گویا رضامندی کا اظہار تھا۔

شہادہ : سخن - کٹین، اتنا، বেশ، اتنا، اول - اظہار، کھلا، ٹھنڈے - ٹھنڈا،

شہادہ : سخن - کٹین، اتنا، বেশ، اتنا، اول - اظہار، کھلا، ٹھنڈے - ٹھنڈا،

چادر۔ یہی وہ سرمایہ تھا، جو دولہا نے دلہن کی نذر کی۔

چادر | ایہی وہ خیرمایا تھا جو دلہا نے دلہان کی نذر کی |
چادر | اٹایہی خیل تار سہل، یا بر کنکے اہار دیہیخیلن |

ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے اپنا ایک خالی مکان دولہا دلہن کے

اک ساہابی (را:) نے اپنا اک خالی مکان دلہا دلہان کے
اک ساہابی را. تار اکٹي خالی ہر بر اہن کنکے

رہنے کو پیش کیا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول

راہنے کو ہش کیا جسکو راسوللہا (سا) نے کبول
ٹاکار جنی دیته ایلے راسوللہا سا. تا ہرہن

فرمایا۔ بزرگ باپ نے اپنی چہیتی بیٹی کو جو جہیز دیا وہ یہ تھا۔

کیا | بوہرگ باہ نے اپنی اہتہی ہٹی کو جو جہیز دیا وہ یہ تھا |
کریلن | سہمانیت ہتا نیہر اادریر مہیکے ہسکل اہتوکن دیہیخیلن تا نیہررہ:

(۱) بان کی ایک چار پائی (۲) چمڑے کا ایک گدا جس میں

(۱) بان کی اک اار ہائی (۲) اامڈے کا اک گاندا جس مہ
(۱) اکٹي رشر تہری ٹوکي; (۲) اامڈار اکٹي گدی ہار مہیہ

کھجور کے پتے بھرے تھے (۳) مٹی کا ایک لوٹا

خہجور کے ہاتتہ ہرے تہ | (۳) مہٹری کا اک لوتا
خہجورر ہاتا ہرا خیل | (۳) اکٹي ماتری لوتا

(۴) مشکیزہ (۵) دوچکیاں (۶) دو مٹی کے گھڑے۔

(۴) اک مشکیہا (۵) دو اکیاں (۶) دو مٹی کے گہڑے |
(۴) اکٹي (ہانی راٹار) مشک (۵) دوٹی ہاتا (۶) دوٹی ماتری کلسی |

شہارٹ : کھینے - ٹہنے ہنڈے، جلی - جلنٹ، اوتنٹ، بدجت - دوبرگیا | انڈی - انڈ، دہٹہین،
تکلیفیں - کٹ، نیراتن، پھرمارا - ہاتر مہریخیل، بانڈیاں - ہاندیرا، ہر - کارن، ترس - کررنا، دہا |

دولہا دلہن جب نئے گھر میں جائے تو حضور دیکھنے

دولہا دولہان جب نئے گھر میں جا لیں تو حضور (س) دیکھنے
بر کئے یکن نئون گھرے برےشہ کربلن، تখন نبی سآ. دیکھار جنی

تشریف لے گئے۔ پہلے دروازے پر گھڑے ہو کر اجازت مانگی

تاشریف لے گآے۔ پہلے دروآے پے خاڈے لھکار ایجآیت مآنگی
سےخانے گمن کربلن۔ برےمے درجآر سآمنے ڈآڈیے انومتی آیلن۔

پھر اندر گئے، ایک برتن میں پانی منگوا یا دونوں ہاتھ اسے ڈالے

فےر آندر گآے۔ آک برتن مے پآنی مآنگآآ ڈنو ہآخ ڈسمے ڈالے آور
آتوپر بآتے برےشہ کربلن۔ آکٹی پآڈے پآنی آیلن۔ ڈبڑ ہآت تآتے برےشہ کربلن

اور ہاتھ نکال کر دونوں پر وہ پانی چھڑکا اور بیٹی سے فرمایا کہ بیٹی!

ہآت نکآل کآر ڈنو پر وھ پآنی آھڈکآ آور بےٹی آے فرمآآ کے بےٹی!
آبڈ بےر کے ڈبڑےر ڈپر ڈکٹ پآنی آھٹیے دیلن آبڈ مےےکے بللن، بےٹی!

میں نے تمہارا نکاح خاندان کے سب سے بہتر شخص سے کیا ہے۔

مآننے تو مہآرآ نکآھ آآندر کے سب آے بےہتےر شآھ آے کیآ آے۔

آمی تو مآر بربآھ بڈشےر سربوآم بآکآر سڈے کربیےآھ۔

اللہ اکبر! کیا سادگی اور بے تکلفی کی تقریب تھی،

آآلآھ آآکبآر! کیآ سآدگی آور بے تآکآلوفی کآ تآکرب تی۔

آآلآھ آآکبآر! کآ سآدآ-سڈے آبڈ آنآڈمڈر آنوآآن آھل۔

مسلمانوں کی خوشی کے مراسم کے لئے کیا اس سے

مسلمآنو کآ آوآش کے مآرآھم کے لیے کیآ ڈھ آے

مسلمآنڈےر آنندرملک (ڈسبے) رآتی-نآتیر آےڈے

شکارث : لوڈی - بآندی، کآتدآسی، برآشت - سہآ کربآ، مےننے وڈآ، بڈو - آآآ، مسڈ، نشآہ -

لکھ، لکھبڈ، شریف - سڈآڈ، و سڈآنیت، موز - ایڈتوڈآلآ۔

بہتر کوئی نمونہ ہو سکتا ہے؟

বেহতর কুয়ি নমুনা হু সেকতা হে?

উত্তম কোন নমুনা হতে পারে?

یہ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے سامنے

ইয়ে গুইয়া হুয়ুর (সা) নে মুসলমানু কে সামনে
এ যেন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদের সামনে

اپنی اور اپنی اولاد کی زندگی کی مثال پیش کی ہے۔

আপনি আওর আপনি আওলাদ কি যিন্দেগী কি মিছাল পেশ কি হে।
নিজের এবং নিজের সন্তানদের জীবনের উপমা তুলে ধরেছেন।

ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا

হামারে নবী (সা) নে কিয়া কিয়া

আমাদের নবী (সাঃ) কি করেছেন

دکھائی ہمیں راہِ اسلام کس نے + سنایا ہمیں حق کا پیغام کس نے

দেকখায়ি হামি রাহে ইসলাম কিছনে + সুনায়ি হামি হক কা পয়গাম কিছনে
ইসলামের রাস্তা আমাদের কে দেখালেন? সত্যের বাণী আমাদের কে শুনালেন?

ہمارے نبی نے، ہمارے نبی نے

হামারে নবী নে হামারে নবী নে

আমাদের নবী, আমাদের নবী

محبت کی یہ ریت کس نے چلائی + کہ انسان سب بن گئے بھائی بھائی

মুহব্বত কী ইয়ে রিত কিছনে চালায়ি + কে ইনসান সব বন গায়ি ভাই ভাই
ভালবাসার এ রীতি কে চালু করেছেন? যার ফলে সকল মানুষ ভাই ভাই হয়ে গেল।

শব্দার্থ : اعلان - ঘোষণা, بے دم - অচেতন, অজ্ঞান, چٹائی - চাটাই, لوٹ پڑے - ঝাঁপিয়ে পড়ল,

طمأنیے - চড় মারা, لہولہان - রক্তাক্ত, ستیا - কষ্ট নির্যাতন করা, سردار - দল বা গোত্রের নেতা।

ہماری نبی نے، ہمارے نبی نے

ہمارے نبی نے ہمارے نبی نے
آمادے نئی، آمادے نئی

مساوات کے پھول کس نے کھلائے + انوٹ کے گلدان کس نے سجائے

موساویات کے فوول کھنے خولایے + اوخوویات کے گوولدان کھنے ساجایے
سامیےر فوول کے فوٹالینے؟ آتاتھیر فوولدانی کے ساجالینے؟

ہماری نبی نے، ہمارے نبی نے

ہمارے نبی نے ہمارے نبی نے
آمادے نئی، آمادے نئی

تیموں کا دل شاد کس نے کیا ہے + غلاموں کو آزاد کس نے کیا ہے

ایراتیموکا دل شاد کھنے کیا ہے + گولام کو آیاد کھنے کیا ہے
ایتیمیر من خوشی کے کرلینے؟ کئیاداسیر مکتی کے کرالینے؟

ہماری نبی نے، ہمارے نبی نے

ہمارے نبی نے ہمارے نبی نے
آمادے نئی، آمادے نئی

ہمیں علم کا شوق کس نے دلایا + جہالت کے پھندے سے کس نے چھڑایا

ہامی ایلئم کا شوق کھنے دلایا + جہالت کے فاندے سے کھنے خوڈایا
کے آمادےرکے ایلمیر پرتی اٹسایہ دیئےھنے؟ اجتار فاندے کے کے آمادےر اڈکار کرےھنے؟

ہماری نبی نے، ہمارے نبی نے

ہمارے نبی نے ہمارے نبی نے
آمادے نئی، آمادے نئی

تفصیل، سرفسٹ، مختصر - ایللامیر خلیفانے، خلفائے اسلام، پرتیابرتن کرنا، واپس : شکارث

بیسٹاریت، بیسٹاریت

دیا ہم کو تو حید کا جام کس نے + بنایا ہمیں خیر اقوام کس نے

دیا ہا ہم کو ت و حید کا جام کس نے + بانا یا ہا می خا ہرے آک و یا م کس نے
اک ت و بادےر پے یا لاکہ آما دےر دیکہ نے؟ س ر و ا ت و م ج ا ت ہ آما دےر ک ہ بانا لے نے؟

ہا ماری نبی نے، ہا مارے نبی نے

ہا مارے نبی نے ہا مارے نبی نے
آما دےر نبی، آما دےر نبی

ترقی کے زینے پہ کس نے چڑھایا + سبق آدمیت کا کس نے پڑھایا

تا راکھی ک ہا نے پے کس نے چ ڈھا یا + س بک آد م ی ا ت کا کس نے پ ڈھا یا
ؤن تیر سی ڈی تے ک ہ آما دےر آرا و ہ ن کر ی ے ک نے؟ م ن و ش ی ت و ر ش ک ف ا ک ہ آما دےر ش ی خ ی ے ک نے؟

ہا ماری نبی نے، ہا مارے نبی نے

ہا مارے نبی نے ہا مارے نبی نے
آما دےر نبی، آما دےر نبی

توحید کی تعلیم

ت و حید کی ت ا لیم
ت و حیدےر ش ک ف ا

کہ ہے ذات واحد عبادت کے لائق + زباں اور دل کی شہادت کے لائق

ک ہ ے یا تے و یا ہ د ای با د ت ک ہ ل ا ی ک + ک ہا ا و ر د ی ل ک ہ ش ا ہ ا د ا ت ک ہ ل ا ی ک
ا ہ ا ک ک س ب ل ا ای با د تے ر ا پ ی و ک ، ج ہ س ا ا ب و ا ن تے ر س ا ک ف ہ ر ا پ ی و ک ۔

اسی کے ہی فرمان اطاعت کے لائق + اسی کی ہے سرکار خدمت کے لائق

ا سی ک ہ ے ف ر م ا ن ا ت ا ا ت ک ہ ل ا ی ک + ا سی ک ہ ے س ر ک ا ر خ د م ت ک ہ ل ا ی ک
ا ر ا ی ا ب ل ا ا ن و س ر ن ی و ی ا ت ، ا ر ا ی س ب ل (ر ا ج ت و) س و ب ا ر ا پ ی و ک ۔

شمارہ : ۱ - سہ ماہی - کئی بھر، مشکل - کٹین، آنکھ - چوخی، بندہوتے، بندہ ہت، مدت - سہ ماہی، بھادینا، بھادینا، بھادینا، بھادینا
- نیک بھائی، نیک بھائی، نیک بھائی، نیک بھائی، نیک بھائی، نیک بھائی، نیک بھائی، نیک بھائی

مظلوم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم

مظلوم ساہباوے کیرام (راہی)

اتیاچاریت ساہباوے کیرام (راہی)

تاریخ شاہد ہے کہ جب نبوت کا آفتاب طلوع ہوا اور اسلام کی

تاریخ شاہد ہے کہ جب نبوت کا آفتاب طلوع ہوا اور اسلام کی
تاریخ شاہد ہے کہ جب نبوت کا آفتاب طلوع ہوا اور اسلام کی
تاریخ شاہد ہے کہ جب نبوت کا آفتاب طلوع ہوا اور اسلام کی

اشاعت و تبلیغ کا کام شروع ہوا، تو مکہ کے غریب اور امیر،

اشاعت و تبلیغ کا کام شروع ہوا، تو مکہ کے غریب اور امیر،
اشاعت و تبلیغ کا کام شروع ہوا، تو مکہ کے غریب اور امیر،
اشاعت و تبلیغ کا کام شروع ہوا، تو مکہ کے غریب اور امیر،

غلام اور آقا، جوان اور بوڑھے سب ہی اسلام کے نام سے

غلام اور آقا، جوان اور بوڑھے سب ہی اسلام کے نام سے
غلام اور آقا، جوان اور بوڑھے سب ہی اسلام کے نام سے
غلام اور آقا، جوان اور بوڑھے سب ہی اسلام کے نام سے

چونک پڑے اور اپنے آبائی دین کے خلاف ایک نئے

چونک پڑے اور اپنے آبائی دین کے خلاف ایک نئے
چونک پڑے اور اپنے آبائی دین کے خلاف ایک نئے
چونک پڑے اور اپنے آبائی دین کے خلاف ایک نئے

دین کے طور و طریق دیکھ کر آگ بگولہ ہو گئے۔ جو کوئی مسلمان

دین کے طور و طریق دیکھ کر آگ بگولہ ہو گئے۔ جو کوئی مسلمان
دین کے طور و طریق دیکھ کر آگ بگولہ ہو گئے۔ جو کوئی مسلمان
دین کے طور و طریق دیکھ کر آگ بگولہ ہو گئے۔ جو کوئی مسلمان

نظر آتا ان کے غیظ و غضب کا نشانہ بن جاتا،

نظر آتا ان کے غیظ و غضب کا نشانہ بن جاتا،
نظر آتا ان کے غیظ و غضب کا نشانہ بن جاتا،
نظر آتا ان کے غیظ و غضب کا نشانہ بن جاتا،

نظر آتا ان کے غیظ و غضب کا نشانہ بن جاتا،
نظر آتا ان کے غیظ و غضب کا نشانہ بن جاتا،
نظر آتا ان کے غیظ و غضب کا نشانہ بن جاتا،

شکارت : خلافت، -خلافہ، -مجبور، -باہی، -اننیاپای، -تنواہ، -بازا، -سارکاری کواہاگار تھکے براداکرت

اثر، -امیت، -اھیت، -بیت المال، -بایتولمال، -راہتی کواہاگار، -باتعدہ، -نیمتاتلریک، -نیممانویا

اس کٲ جان خطرے میں پڑ جاتی، اس کٲ دولت تباہ ہو جاتی

ٲسکٲ جان خاترے مے پڈ جاتی، ٲس کٲ دٲلٲ تباہ ہ جاتی
تادےر جٲبن آشاںکای پتٲت ہت ۔ تادےر دن-سمنپد دنس ہئے یےت

اور اس کٲ عزت خاک میں مل جاتی۔ اس زمانے میں

آٲر ٲس کٲ ہٲت خاک مے مل جاتی ۔ ہس ٲمانے مے
آبں تادےر مان-سمنان دھلٲنٲاں ہئے یےت ۔ آ سمن

اسلام لانے کے یہ معنی ہوتے کہ اب ایک شخص اپنے خاندان

ہسلاام لانے کے ہئے ما'نی ہتے کے آب آک شخہ آپانے خاندان
ہسلاام آہنےر آرث آٹا ہت یے، آخن آک بٲکتٲ نٲج بںش

اور اپنے ملک کے عام لوگوں کے خلاف لا الہ الا اللہ

آٲر آپانے ملک کے آم لوٲکے خہلاف "لا ہلاہا ہللآلآہ
آبں نٲج دےشےر ساہارن جنننےر مٲکابہلای 'لا' ہلاہا ہللآلآہ

مڈ رسول اللہ کی آواز بلند کر کے اپنے کو خطرے میں ڈال رہا ہے۔

مواہمادور راسوللآہ" کٲ آٲآآ بولند کارکے آپانے کو ختےرے مے ڈال رآہا ہے ۔
مواہمادور راسوللآہ' آر آٲآآ آحہ کرے نٲجکے بٲدے ہلےہے ۔

یوں تو سب ہی صحابہؓ نے اسلام کی خاطر تھوڑی بہت مصیبتیں جھیلی ہیں

ہٲ تو سبہٲ ساہابا (راہ) نے ہسلاام کٲ خاتٲر خٲڈٲ بھت موسٲبٲٲ جٲہلٲ ہے
آہابے تو سکل ساہابٲہ ہسلاامےر جنٲے کم-بہشٲ آتٲآآر ہٲن کرےہےن

اور دشمنان دین کے ظلم دستم سہے ہیں، مگر ان مظلوم اصحاب رسولؐ نے

آٲر دوشمنانے دٲنکے یولم ٲ ساتم ساہے ہے، مگر ہن ماہلوم آسہابے (راسول (سا) نے
آبں دٲنےر شآرڈےر جلولم ٲ آتٲآآر سہٲ کرےہےن ۔ تبے راسوللآہ سا. آر

شدارث : آختٲار -آبلننننن کرآ، آٹالٲکا، بٲلڈٲٲ ۔ آکڈٲٲ کرآ، بٲنٲہ -آبٲکل، انوررررر،

آرل بدل -آرٲبٲرن، ررررررر، کارنامہ -کٲرتٲ، کارآکمرےر فٲرٲسٲٲ، ہڈٲٲ -ہاڈ، آسٲٲ، ہاڈٲٲ ۔

جن کا ذکر آگے آ رہا ہے، اسلام پر قائم رہنے کے لئے جس قدر

جین کا یحیر آگے آ رہا ہے، اسلام پر کاہم راہنے کے لیے جس قدر
 ۽ سکل اذیاءاربت ساہابی یاءے آلاؤنا سامنے آسے، آرا اسلامے ۛپر ابیال آاار کاارے ے یرماں

بڑی بڑی تکلیفیں برداشت کی ہیں ان کو سنکر رونگٹے گھڑے ہو جاتے ہیں۔

بڑی بڑی تکلیفیں برداشت کی ہیں ان کو سنکر رونگٹے گھڑے ہو جاتے ہیں۔

بڑی بڑی تکلیفیں برداشت کی ہیں ان کو سنکر رونگٹے گھڑے ہو جاتے ہیں۔

حضرت بلال رضی اللہ عنہ

ہیرت ہلال (راہ)

یہ بیچارے حبشی تھے اور امیہ بن خلف کے غلام تھے، جو اسلام کا

ہیے ہعارے ہابشی آے آور ۛماہیا ہین آالاف کے آلام آے، آو اسلام کا
 ۽ ہعارا ہابشی آیلےن ۽ہن ۛماہیا ہین آلہفےر آریاداس آیلےن ے اسلامے

سخت ترین دشمن تھا۔ جب اسلام لائے تو ان پر مصیبتوں کا

سخت ترین دشمن تھا، آب اسلام لایے آو ہن یر موسیبتو کا
 آورآر آوشمن آیل۔ یآن ہیرت ہلال، را، اسلام آہن آرےن، آآن آار ۛپر ہیرآےر

پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ مکے میں گرمی کی شدت سے ریت جلنے لگتی تھی۔

پہاڑ ٹوٹ پڑا، مکے میں گرمی کی شدت سے ریت جلنے لگتی تھی۔

پہاڑ ٹوٹ پڑا، مکے میں گرمی کی شدت سے ریت جلنے لگتی تھی۔

امیہ بن خلف ان کو ٹھیک دوپہر کے وقت ننگا کر کے اس تپتی ہوئی

ۛماہیا ہین آالاف ۛنکو آیک آوپہر کے آوقآ ننگا آر کے اس آپیآی ہوی

ۛماہیا ہین آالاف آاے آیک آوپورےر سامی شریر انابآ آرے ۽ ۛنآ

شہادہ : ضاع - ہلآ، اسآیآہی، ہرہس، آال - آینآ، آینآہی، مصلآ - یرماآدشیرآ،

آرآشیرآ، آایا، سآرآآا، ساہانآا۔

ریت پر لٹا دیا تھا۔ یہی نہیں، بلکہ سینے پر پتھر کی سل رکھ دیتا کہ

ریت پر لےٹا دیا تھا۔ ایسے ہی نہی بلکہ سینه پر پاٹھر کی سل رکھ دیتا کہ
بالور اؤپر شون کریرے دیت۔ ءو تہ نر ورر ورور اؤپر پاٹھررر شل رررر دیت،

ہلنے نہ پائیں۔ مگر ان کی زبان پر اس حالت میں بھی خدا کے نام

ہلنے نا پاے، مگر ان کی زبان پر اس حال ت مے تی خودا کے نام
ہا تے نڈاڈا کر تے نا پارے۔ کسٹ ا م ت ا ب سٹاے و تار مخرے بار بار انااھر نام

کی رٹ تھی۔ امیہ نے جب یہ دیکھا کہ اس طرح بھی باز نہیں

کی رٹ تھی۔ ا م ی ہ نے جب یہ دیکھا کہ اس طرح بھی باز نہیں
کی رٹ تی۔ ا م ی ہ نے جب یہ دیکھا کہ اس طرح بھی باز نہیں
کی رٹ تی۔ ا م ی ہ نے جب یہ دیکھا کہ اس طرح بھی باز نہیں

آتے، تو گردن میں رسی ڈال کر شریڑ کو کے حوالے کر دیتا،

آتے، تو گردن میں رسی ڈال کر شریڑ کو کے حوالے کر دیتا،
آتے، تو گردن میں رسی ڈال کر شریڑ کو کے حوالے کر دیتا،

وہ انھیں سارے شہر میں گھسیٹتے پھرتے تھے۔

وہ انھیں سارے شہر میں گھسیٹتے پھرتے تھے۔
وہ انھیں سارے شہر میں گھسیٹتے پھرتے تھے۔

وہ انھیں سارے شہر میں گھسیٹتے پھرتے تھے۔
وہ انھیں سارے شہر میں گھسیٹتے پھرتے تھے۔

مگر خدا کا یہ پیارا بندہ اُس وقت بھی اَحَدُ اَحَدُ پکارتا تھا۔

مگر خدا کا یہ پیارا بندہ اُس وقت بھی اَحَدُ اَحَدُ پکارتا تھا۔
مگر خدا کا یہ پیارا بندہ اُس وقت بھی اَحَدُ اَحَدُ پکارتا تھا۔

مگر خدا کا یہ پیارا بندہ اُس وقت بھی اَحَدُ اَحَدُ پکارتا تھا۔
مگر خدا کا یہ پیارا بندہ اُس وقت بھی اَحَدُ اَحَدُ پکارتا تھا۔

رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ

رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ
رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ

رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ
رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ

شمارف : رقیب القلب - ائتور، کومل ہدے، دےاد، تجارت - بسباس، مشغلہ - لپتتا، بیاٹو ٹاكا،

شمارف : رقیب القلب - ائتور، کومل ہدے، دےاد، تجارت - بسباس، مشغلہ - لپتتا، بیاٹو ٹاكا،
شمارف : رقیب القلب - ائتور، کومل ہدے، دےاد، تجارت - بسباس، مشغلہ - لپتتا، بیاٹو ٹاكا،

حضرت خباب بن الارث رضی اللہ عنہ

ہجرت خباب ابنول آراش (راۛ)

آپ کو ظالموں نے غلام بنا کر بیچ ڈالا تھا۔ مسلمان ہوئے

آپ کو یاللمو نے گولام بانا کار بےچ ڈالا آھا۔ موسلمان ہئے
آباب را. کہ اآآاآاریرا گولام بانئے بیکری کرے فےلےآیل۔ موسلمان ہوآار کارنے

تو قریش نے انھیں سخت تکلیفیں دیں، دہکتے ہوئے انگاروں

آو کورائش نے انھیں سآآ تکلیفیں دیں، دہکتے ہوئے انگاروں
آو کورائش نے انھیں سآآ تکلیفیں دیں، دہکتے ہوئے انگاروں
آو کورائش نے انھیں سآآ تکلیفیں دیں، دہکتے ہوئے انگاروں

پرچت لٹا دیا اور اس وقت تک نہیں چھوڑا، جب تک

پر آیت لےآا دیا آوور آس اوآاآآ آک نےہی آوڈا۔ آب آک
آوور آیت لےآا دیا آوور آس اوآاآآ آک نےہی آوڈا۔ آب آک

کوئلے بالکل ٹھنڈے نہ پڑ گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کھال

آوئلے بالکل آھنڈے نہ پڑ گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کھال
آوئلے بالکل آھنڈے نہ پڑ گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کھال
آوئلے بالکل آھنڈے نہ پڑ گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کھال

بالکل اتر گئی اور پیٹھ پر سفید داغ پڑ گئے، اور انہوں نے

بالکل اآر گئی اور پیٹھ پر سفید داغ پڑ گئے، اور انھوں نے
بالکل اآر گئی اور پیٹھ پر سفید داغ پڑ گئے، اور انھوں نے
بالکل اآر گئی اور پیٹھ پر سفید داغ پڑ گئے، اور انھوں نے

سچے دین سے منہ نہ موڑا۔

ساآے دینآے موہ نا موڈا۔

سآآ آرم آآاگ کرےن ناہی۔ (با بيموآ ہئ ناہی)

شآآآ : آراآ - نیکآآآی، آآآی-سآآ، آآآ - سآآآبیکر آرا، آزیز و آرایب - آرایآآآ،
نیکآآآی، آآآ - اوآراآیکار۔

حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ

ہجرت آسمان بیں ایسار (راہ)

یہ بھی بڑے بہادر انسان تھے۔ مسلمان ہونے کے بعد قریش

ایسے ہی بڑے باہادور انسان تھے۔ مسلمان ہونے کے بعد کورائش

تینوں بڑے بے پور پور تھے۔ مسلمان ہونے کے بعد کورائش

انہیں گرم ریت پر لٹاتے اور مارتے مارتے بیہوش کر دیتے۔

انہیں گرم ریت پر لٹاتے اور مارتے مارتے بیہوش کر دیتے۔

تاکے اٹھنے کے لیے انہیں گرم ریت پر لٹاتے اور مارتے مارتے بیہوش کر دیتے۔

آپ کی والدہ حضرت سُمیہ رضی اللہ عنہا کو مسلمان ہونے کی یہ

آپ کی والدہ حضرت سُمیہ رضی اللہ عنہا کو مسلمان ہونے کی یہ
آپ کی والدہ حضرت سُمیہ رضی اللہ عنہا کو مسلمان ہونے کی یہ

سزا ملی کہ ابو جہل نے بڑی بے دردی سے برچی مار مار کر

سزا ملی کہ ابو جہل نے بڑی بے دردی سے برچی مار مار کر
سزا ملی کہ ابو جہل نے بڑی بے دردی سے برچی مار مار کر

شہید کر دیا۔ اسی طرح آپ کے والد حضرت یاسر رضی اللہ عنہ کو

شہید کر دیا۔ اسی طرح آپ کے والد حضرت یاسر رضی اللہ عنہ کو
شہید کر دیا۔ اسی طرح آپ کے والد حضرت یاسر رضی اللہ عنہ کو

اسلام لانے کے جرم میں اتنی تکلیفیں پہنچائی گئیں کہ ان ہی

اسلام لانے کے جرم میں اتنی تکلیفیں پہنچائی گئیں کہ ان ہی
اسلام لانے کے جرم میں اتنی تکلیفیں پہنچائی گئیں کہ ان ہی

شہادت : غور - چار گونہ، انتقال - انتقال، مٹنا، باضابطہ - سبب یا نیامانوی، آہن
انوسارے، پرچے - سامراج، راجت، قیسر کری - کسرا و کاسار، دیوتاؤں - دیو-دیوی۔

تکلیفوں کے صدمے سے انتقال کر گئے۔ مگر حضرت عمار

تکلیفوں کے صدمے سے ہنرتیکال کار گایے۔ مگر ہہر ت آماار
آماار راہیاآلااھ آناھ ا سمست کٹھور تا اہہ ہپداپد سہہو اہک آلا ہڈ

رضی اللہ عنہ ان تمام سختیوں اور مصیبتوں کے باوجود ایک

(راہ) ہن تاامام سآتیا آ اور موسیبتو کے ہا اڈو اہک
پاآہرہر نیاہ سہیہ آاکیا اہہ ہشاہسہ اآل آیلہن۔

چٹان کی طرح اپنے عقیدے اور نظریے پر جمے رہے۔

آٹان کي تاراہ آاپنہ آاکیا آ اور نہریہہ ہر آمہ راہہ۔
پاآہرہر نیاہ سہیہ آاکیا اہہ ہشاہسہ اآل آیلہن۔

حضرت ضہیب رضی اللہ عنہ : یہ ایک غلام تھے جو مسلمان ہو گئے تھے۔

ہہر ت آوہاہہہ (راہ) : ہیہ اہک آولام آہ آو موسلمان آ گایہ آہ۔
ہہر ت سوہاہہہ راہیاآلااھ آناھ : ہنی اہکآن آولام آیلہن، ہنی موسلمان ہیہ آیلہن

ان کو پکڑ کر اتنا مارتے تھے کہ ان کے ہوش و حواس جاتے رہتے تھے۔

ہن آو پاکڈ کر انا مارا آہ آہ آنکہ آش ا آاواس آا آہ آہ آہ۔
آا آہہ انا ہراہ کر آہ، آار آان ہرآنت ہاریہہ آہ آہ۔

حضرت ابو فکیہہ رضی اللہ عنہ : یہ صفوان بن امیہ کے غلام تھے۔

ہہر ت آاو فاکہہہ (راہ) : ہیہ ساآوان ہن امایا آہ آولام آہ۔
ہہر ت آاو فاکہہہ (راہ) : تین آیلہن ساآوان ہہنہ امایار آولام۔

اس بد بخت کو جب آپ کے اسلام لانے کی خبر ہوئی تو ان کے

ہس ہد ہآت آو آہ آاپکہ ہسلام لانہ آہ آہر آہی آو آنکہ
ا آورآار نیکآ ہآن آار ہسلام آہآہر سہہاد آوآل، آآن سہ

شآارآ : آڑتہ - آرآا، ساآاآا، آوآو - سہنہ-ساآا، آل - آولتا،
آڈآوآو، آل آالہ - آآاآآ، آورآار آولتا، آولتا - نیاآاآلک ہسلامی آلآا،

پیر میں رسی باندھ کر لوگوں سے کہا کہ انھیں گھسیٹتے ہوئے لے

پایےر مے رسس بانداہ کار لوگوھے کاہا کہہ اونہی گوہٹتے لھے لے
تائےر پایے رشی بےہے لوءدےرکے بلال، توامرا تاکے ٹانے ٹانے نیے

جائیں اور جلتی ہوئی ریت پر لٹا دیں۔ ایک دفعہ اس زور سے گلا

جائی آوےر جلتی لھی رےت پر لےٹا دے۔ آک دفعہ آ ہس جھرخے لالا
یاوے آہے اوتوٹ بالور اپر شوہیے داوے آکبار تار آت جوءے لالا

گھونٹا کہ معلوم ہوا کہ دم نکل گیا۔ ایک مرتبہ سینے پر پتھر کی

ٹوٹا کہ مالموم لھی کہ دم نکل گیا۔ آک مرےتبا سنے پر پاخر کی
ٹپے ڈرل ے، مے نہ لٹھل ےن دم بےر ہئے لےل۔ آکبار بوءےر اپر بےراٹ آکخڈ پاخر

چٹان رکھ دی۔ یہ اتنی بھاری تھی کہ زبان باہر نکل پڑی۔ رضی اللہ عنہ۔

ٹٹان راخ دے۔ ہئے آتےن بارے ھی کہ ےبان باہےر نکل پڈے۔ راہیااللاھ آنلھ۔
رےخے دل۔ آ پاخر خڈ آت بارے لٹھل ے، جہسا بےر ہئے لےل۔ آاللاھ تار اپر سڈٹٹ۔

حضرت زئیرہ رضی اللہ عنہا : یہ ایک لونڈی تھیں ان کو ابو جہل نے

ہےرےت یوناہرا (راہ) : ہئے آک لےونڈے ھی ہن کو آابو جاہل نے
ہےرےت یونایرا را. : ہن آکجن ڈرےتداسے لٹھلےن۔ ٹاے کو آابو جاہل

اس قدر مارا اور اتنی تکلیفیں دیں کہ بیچاری روتے روتے اندھی

ہس کدےر مارا آوےر آتےن ٹکلےفے دے کہ بےچارے روتے روتے آلٹھ
آت ڈہار کھرےخے آہے آت کٹٹ دےہئےخے ے، نررپاے آ بآلٹھ کاندتے کاندتے آکھ

ہوگئی۔ اسی طرح حضرت نہدیہ اور حضرت ام عیسیٰؑ دونوں

لھ لایے۔ اوسے تےرہے ہےرےت ناہدےیا آوےر ہےرےت اوسے اوباءس (راہ) دنو بانڈےیا
ہئے لےخےن۔ انوررپ ہےرےت ناہدےیا آہے ہےرےت اوسے اوباءلھ راہیااللاھ آنلھما دوجن

- مجلس شوری، بکھت، جیاد، سسکےت منا، سبے، مسدےن، نربالہ، بآبساپنا، انڈامات : سڈاآرہ

آساہوگآ۔ کتےپے ڈدےش، مرےتھارے، آاد م شمارے، قابل کاشے، پارامرشسب۔ متعد وصوول۔

باندیاں تھیں۔ اسلام لانے کی وجہ سے انھیں سخت سے سخت

تھی۔ اسلام لانے کی وجہ سے انھیں سخت سے سخت
تھی۔ اسلام لانے کی وجہ سے انھیں سخت سے سخت
تھی۔ اسلام لانے کی وجہ سے انھیں سخت سے سخت

تکلیفیں پہنچائی گئیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ان مظلوموں

تکلیفیں پہنچائی گئیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ان مظلوموں
تکلیفیں پہنچائی گئیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ان مظلوموں

پر بہت ترس آیا۔ وہ جب کسی غلام یا لونڈی پر ظلم ہوتے

پر بہت ترس آیا۔ وہ جب کسی غلام یا لونڈی پر ظلم ہوتے
پر بہت ترس آیا۔ وہ جب کسی غلام یا لونڈی پر ظلم ہوتے

دیکھتے تو ان سے برداشت نہ ہوتا، اور بڑی بڑی قیمتوں پر خرید

دیکھتے تو ان سے برداشت نہ ہوتا، اور بڑی بڑی قیمتوں پر خرید
دیکھتے تو ان سے برداشت نہ ہوتا، اور بڑی بڑی قیمتوں پر خرید

کرا انھیں آزاد کر دیتے۔ انہوں نے ان میں سے اکثر کو اسی طرح

کرا انھیں آزاد کر دیتے۔ انہوں نے ان میں سے اکثر کو اسی طرح
کرا انھیں آزاد کر دیتے۔ انہوں نے ان میں سے اکثر کو اسی طرح

ان ظالموں کے پنجوں سے نجات دلائی۔ اس ظلم و ستم کا نشانہ

ان ظالموں کے پنجوں سے نجات دلائی۔ اس ظلم و ستم کا نشانہ
ان ظالموں کے پنجوں سے نجات دلائی۔ اس ظلم و ستم کا نشانہ

ایسے لوگ بھی تھے جن کا شمار شریف اور معزز لوگوں میں تھا۔

ایسے لوگ بھی تھے جن کا شمار شریف اور معزز لوگوں میں تھا۔
ایسے لوگ بھی تھے جن کا شمار شریف اور معزز لوگوں میں تھا۔

شمارش : - پیداوار، فوسل، چینی، ککرو، کالےکٹور، کور، ہتیادی سرکاری پاوانا دی

سنگھکارا، عام نرانی، بیاپک دیکھاگونا، تہذیبدان، سرکاری، سرکاری / راشٹری، سڈک، راسٹا۔

چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو خود ان کے چچا نے رسی سے باندھ کر

چوناچہ ہجرت سے پہلے (راہ) کو خود ان کے چچا نے رسی سے باندھ کر
 یمن ہجرت سے پہلے (راہ) کو خود ان کے چچا نے رسی سے باندھ کر

مارا، حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ نے کعبہ میں اپنے اسلام لانے کا

مارا، ہجرت سے پہلے (راہ) کو خود ان کے چچا نے رسی سے باندھ کر
 یمن ہجرت سے پہلے (راہ) کو خود ان کے چچا نے رسی سے باندھ کر

اعلان کیا تو کافروں نے اتنا مارا کہ وہ بے دم ہو گئے۔

ہجرت سے پہلے (راہ) کو خود ان کے چچا نے رسی سے باندھ کر
 یمن ہجرت سے پہلے (راہ) کو خود ان کے چچا نے رسی سے باندھ کر

حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو ان کے چچا چٹائی میں لپیٹ کر ناک میں

ہجرت سے پہلے (راہ) کو خود ان کے چچا نے رسی سے باندھ کر
 یمن ہجرت سے پہلے (راہ) کو خود ان کے چچا نے رسی سے باندھ کر

دھونی دیتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کعبے میں

دھونی دیتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کعبے میں
 یمن ہجرت سے پہلے (راہ) کو خود ان کے چچا نے رسی سے باندھ کر

ایک روز قرآن پڑھ رہے تھے کہ کافران پر ٹوٹ پڑے اور منہ پر اتنے

ایک روز قرآن پڑھ رہے تھے کہ کافران پر ٹوٹ پڑے اور منہ پر اتنے
 یمن ہجرت سے پہلے (راہ) کو خود ان کے چچا نے رسی سے باندھ کر

زور سے طمانچے مارے کہ چہرہ زخمی اور لہولہاں ہو گیا۔ حضرت

زور سے طمانچے مارے کہ چہرہ زخمی اور لہولہاں ہو گیا۔ حضرت
 یمن ہجرت سے پہلے (راہ) کو خود ان کے چچا نے رسی سے باندھ کر

شکارت : پانی کے مخزن - پانی کے مخزن، لنگڑوں - لنگڑوں، بیکلاک - مضبوط قلعہ، مذبذبتہ - مذبذبتہ،
 سہج اردو کی تہذیبی کتاب- ۹۲

ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کفار مکہ نے اتنا ستایا کہ وہ مکہ چھوڑ کر

آبؤ بکرر سیدئک (را:) کو کوففارے مکک نے انا سیتااا کہ وھ مکہ چھوڑ کر
حیددک را. کہ مککار کافیررا انا کسٹ دیاےھے یہ، تینا مککا ہےڈے

چلے گئے اور پھر ابن دغنه نامی ایک سردار کے سمجھانے پر واپس آئے۔

چلے گئے اور پھر ابن دغنه نامی ایک سردار کے سمجھانے پر واپس آئے۔
چلے گئے اور پھر ابن دغنه نامی ایک سردار کے سمجھانے پر واپس آئے۔

(۱) حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ

ہجرت آبؤ بکرر (را)

(۱) ہجرت آبؤ بکرر (را)

خلفائے اسلام

خولافاے اءسلام

ءسلامےر خلیفا

عزیز بچو! تم ”اردو کی دوسری کتاب“ میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ

آہیہ باءھو! توام ”ءردو کی دوءری کیتاب“ مے ہجرت آبؤ بکرر (را:)
ہریہ ہےلےرا! توامرا ”ءردو دوءری“ کیتابےر مءیہ ہجرت آبؤ بکرر را۔-

کے مختصر حالات پڑھ چکے ہو، اب ہم یہاں کچھ اور تفصیل سے

کہے موءتاہار ہالائ پڈھ ءوےھ۔ آاب ہام اءااا کوء آااور تفسیل ہے
اےر سءفکسٹ ابااا پڈے فےلےھ۔ اءن آامی اءاانے ابااارائاباے

بیان کرتے ہیں، خوب سمجھ کر پڑھو: آپ نے کل دو برس تین مہینے

باان کرےے ہے، ءوب سمجھ کر پڑھو: آپ نے کل دو برس تین مہینے
باان کرےے ہے، ءوب سمجھ کر پڑھو: آپ نے کل دو برس تین مہینے

وس دن حکومت کی۔ لیکن اتنی ذرا سی مدت میں جتنے بڑے بڑے

دء دن ہکوءمات کی۔ لےکین انا نیا ہرا سی موءدات مے یہانے باڈے باڈے
دء دن رااا ہرئالانا کرےن۔ کسب انا ابلل سامےر مءیہ باڈ باڈ

شءارء : ءءئ - کااااباے، کڈاکڈاباے، اراا - ساہس، ہماا، صوبے کا کام - ہاکیم، ابااارک،
ءبئو باا، نالشا، ااارک - مئمااا، سءشوءان، ابااا کران۔

تلوار اٹھانے کے مخالف تھے۔ لیکن حضرت ابو بکرؓ نے کہا کہ یہ نہیں

تلاوے کے مخالف تھے۔ لیکن حضرت ابو بکرؓ نے کہا کہ یہ نہیں
تلاوے کے مخالف تھے۔ لیکن حضرت ابو بکرؓ نے کہا کہ یہ نہیں
تلاوے کے مخالف تھے۔ لیکن حضرت ابو بکرؓ نے کہا کہ یہ نہیں

ہوسکتا، جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بکری کا

ہو سکتا، جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بکری کا
ہو سکتا، جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بکری کا
ہو سکتا، جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بکری کا

ایک بچہ بھی دیتا تھا، اس سے میں تلوار کے ذریعہ سے وصول کروں گا۔

ایک بچہ بھی دیتا تھا، اس سے میں تلوار کے ذریعہ سے وصول کروں گا۔
ایک بچہ بھی دیتا تھا، اس سے میں تلوار کے ذریعہ سے وصول کروں گا۔
ایک بچہ بھی دیتا تھا، اس سے میں تلوار کے ذریعہ سے وصول کروں گا۔

آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ بڑی گہری محبت تھی۔

آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ بڑی گہری محبت تھی۔
آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ بڑی گہری محبت تھی۔
آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ بڑی گہری محبت تھی۔

ہر وقت جان و مال سے حاضر رہتے تھے۔ کبھی سخت سے سخت

ہر وقت جان و مال سے حاضر رہتے تھے۔ کبھی سخت سے سخت
ہر وقت جان و مال سے حاضر رہتے تھے۔ کبھی سخت سے سخت
ہر وقت جان و مال سے حاضر رہتے تھے۔ کبھی سخت سے سخت

موقع پر بھی آپ کے قدم پیچھے نہیں ہٹے۔ خلافت سے

موقع پر بھی آپ کے قدم پیچھے نہیں ہٹے۔ خلافت سے
موقع پر بھی آپ کے قدم پیچھے نہیں ہٹے۔ خلافت سے
موقع پر بھی آپ کے قدم پیچھے نہیں ہٹے۔ خلافت سے

پہلے کپڑے کا کاروبار کرتے تھے۔ لیکن خلیفہ ہونے کے بعد کام

پہلے کپڑے کا کاروبار کرتے تھے۔ لیکن خلیفہ ہونے کے بعد کام
پہلے کپڑے کا کاروبار کرتے تھے۔ لیکن خلیفہ ہونے کے بعد کام
پہلے کپڑے کا کاروبار کرتے تھے۔ لیکن خلیفہ ہونے کے بعد کام

فاضل صحابی، شیعہ، تعلیم - لکھنؤ، اسلامیات، دارالعلوم، مولانا آزاد ایجوکیشنل ٹرسٹ، نئی دہلی، سابق
- لکھنؤ، اسلامیات، دارالعلوم، مولانا آزاد ایجوکیشنل ٹرسٹ، نئی دہلی، سابق
- لکھنؤ، اسلامیات، دارالعلوم، مولانا آزاد ایجوکیشنل ٹرسٹ، نئی دہلی، سابق

بڑا کارنامہ قرآن کا جمع کرنا ہے۔ اس لئے کہ قرآن مجید اس وقت

বড়া কারনামা কুরআন কা জামা' কারনা হে। ইস লিয়ে কে কুরআন মজীদ ইস ওয়াক্ত বড় কীর্তি হল- পবিত্র কুরআন একত্রিকরণ। এজন্য যে, ঐ সময় কুরআন মজীদ

چمڑے کے ٹکڑوں، اونٹ کی ہڈیوں اور کھجور کے پتوں پر لکھا ہوا تھا۔

চামড়েকে টুকরো, উটকে হাড়িডু আওর খেজুর কে পাততু পর লেখা হুয়া থা। চামড়ার টুকরো, উটের হাড় এবং খেজুরের পাতার উপর লিখিত ছিল।

اور وہ بھی کسی ایک شخص کے پاس کوئی سورہ تھی، کسی کے پاس کوئی

আওর ওহ ভি কেছি এক শখছ কে पास কুয়ি সূরা থি। কেছি কে পাছ কুয়ি আর তাও কোন এক ব্যক্তির নিকট কোন সূরা ছিল, কোন ব্যক্তির নিকট একটি

آیت تھی، کسی کے پاس کوئی ٹکڑا تھا۔ حضرت عمرؓ نے مشورہ دیا کہ

আয়াত থি, কেছি কে পাছ কুয়ি টুকরা থা। হযরত উমর (রাঃ) নে মশওয়ারা দিয়া কে আয়াত, কারও নিকট কিছু অংশ। হযরত উমর রা. পরামর্শ দিলেন যে,

پورے قرآن کو ایک جگہ جمع کر لیا جائے، تاکہ آئندہ ضائع

পুরে কুরআন কু এক জাগা জমা কার লিয়া জায়ে, তাকে আয়েন্দাহ যায়ে' সম্পূর্ণ কুরআন শরীফ একত্রে জমা করা হোক যাতে ভবিষ্যতে বিলুপ্ত

نہ ہو جائے۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں

না হু জায়ে। চুকে রাসূলুল্লাহ (সা) কে যমানে মে হয়ে না যায়। যেহেতু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জীবদ্দশায় এ

یہ نہ ہوا تھا، اس لئے حضرت ابوبکرؓ کو تامل ہوا لیکن پھر

ইয়ে না হুয়া থা। ইস লিয়ে হযরত আবু বকর (রাঃ) কু তাআম্মুল হুয়া, লেকীন ফের কাজটি হয়নি এ কারণে হযরত আবু বকর রা. চিন্তিত হলেন, কিন্তু

شکارت : دھیان - स्मरण, ہمیشہ - सर्वदा, یاد کرو - स्मरण कर। دینداری - دینداری, ধর্ম پالনের অনুভূতি, افسوس - آفاسوس, हा-हताश, دشمن - शत्रु, दुश्मन, زہر - বিষ, प्राणसंहारक, دولت - धन-सम्पद, ڈمیر - स्तूप, - خلافت - খেলাفت, ইসলামی বিধান মতে পরিচালিত সরকার ব্যবস্থা, نازل - অবতীর্ণ, حرام - হারাম, নিষিদ্ধ।

حضرت عمرؓ کے اصرار سے اس کی مصلحت سمجھ میں آگئی،

ہیبرت عمر (را:) کے اصرار سے اس کی مصلحت سمجھ میں آگئی،

ہیبرت عمر (را:) کے اصرار سے اس کی مصلحت سمجھ میں آگئی،

اور آپ نے ان صحابہؓ سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے

آپ اور آپ نے ان صحابہؓ سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے

زمانے میں قرآن لکھتے تھے اور جن کو قرآن زیادہ حفظ تھا،

زمانے میں قرآن لکھتے تھے اور جن کو قرآن زیادہ حفظ تھا،

بڑی احتیاط سے قرآن شریف ایک جگہ جمع کرا لیا۔

بڑی احتیاط سے قرآن شریف ایک جگہ جمع کرا لیا۔

یہی قرآن ہم آج پڑھتے ہیں۔ آپ بڑے نرم دل اور

یہی قرآن ہم آج پڑھتے ہیں۔ آپ بڑے نرم دل اور

رفیق القلب تھے مزاج میں مطلق سختی نہ تھی۔ خلافت سے پہلے

رفیق القلب تھے مزاج میں مطلق سختی نہ تھی۔ خلافت سے پہلے

تجارت کے ذریعہ روزی پیدا کرتے تھے۔ خلافت کے

تجارت کے ذریعہ روزی پیدا کرتے تھے۔ خلافت کے

شکارت : بڑی دولت، نافرمانی، اطاعت، انوسرڀ ڪرا، مڻو چلا، پڻروى : شڪارت
سڻسد، ڪمئل - پورڻتا، پڻرپورڻتا، شوق ذوق - آڻهه، اچھا، ٻال، خداپرست - آڻاھڻر اباذتڪارو، قرآن
مچوڻو تلاوت - ڪورآن مچوڻو تولاوڻا، ناشتہ، ناڻا، سڪال بڪالو ھالڪا ھاوار .

ہعد کچھ دنوں تک یہ مشغلہ قائم رہا۔ لیکن خلافت کے کاموں

ہا'د کوح دی نا تک ہیے ماشگالا کایم راہا | لےکین خেলাفت کے کامو
ہرےو کیکھوہین ہرےسنت ا کاج چالو থাকے | کیکھت خেলাفتہر کارےکرمہر کارہے

کی وجہ سے فرصت نہ ملتی تھی، اس لئے صحابہؓ نے سالانہ ڈھائی ہزار

کی ویاہا ہے فھرسات نا میلتی ہی | ہیسلیے ساہابا (راہ) نے سالانا ڈاہای ہاہار
(کےہیکا نیرباہر) سوہوگ میلکھیل نا، ا ہنہ ساہاباگہ ہاہسارک اڈاہ ہاہار

درہم وظیفہ مقرر کیا۔ ایک درہم ساڑھے تین ماشہ چاندی کا ہوتا ہے۔

ہیرہام وھیفا مکھاررار کیا | اہک ہرہام ساڈے تین ماشا چانہی کا کھتا ہے |
ہرہام ہاتا نیرہارہہ کرے ہن | اہک ہرہام ساڈے تین ماشا (رہوپیر ہمان ہی) |

اپنے زمانہ خلافت میں اپنے کسی قرابت والے کو کوئی عہدہ نہیں دیا،

ااہنے ہماناے خেলাفت مے ااہنے کھکھ کھارہات ویاہے کو کوی اہدا نہی ہیا |
ہہرہات اہو ہکر را | اہر خেলাفتکالے تار کون ااتریہ-سہہنکے کون ہد ہنہن |

کسی مقام کا افسر نہیں بنایا۔ انتقال کے وقت اپنے عہدہ خلافت کے لئے

کھکھ مکام کا افسار نہی ہانایا | ہنہتیکال کے ویاکت ااہنے اہداے خেলাفت کے لیے
کون سٹانہر افسار نیہکت کرہنہن | ہنتیکالہر ہمای سہیہ خেলাفتہر ہدہر ہنہ

نامزد کیا تو نہ اپنے بیٹے کو نہ کسی اور عزیز و قریب کو بلکہ حضرت عمرؓ کو۔

ناموہد کیا تو نا ااہنے ہٹے کو نا کھکھ ااور اہیہ و کھاریہ کو ہلکے ہہرہات اہمر (را) کو،
نام ٹیک کرہہن | کیکھت تار مہیہ نیہر کھلے اہہا ہریہ ہکتی ہا نیکٹاتریہر نام ااسے ناہ ہرہہ ہہرہات اہمر را۔ اہر نام ہیےہن |

دنیا کو دکھلا گئے کہ انبیاء علیہم السلام کے جانشین ایسے ہوتے ہیں۔

ہونہیا کو ہکھلا گایے کے ااسہیا االاہیہمس سالام کے ہانہشہن اہہکھ کھتے ہے |
ہونیاکے ہہہیے گیےہن ہے، ااسہیا االاہیہس سالامہر اہوراہیکار ا ہرکمہ ہیے থাকے |

رضی اللہ عنہ۔ راہیہالناہ اانکھ

االناہ تار ہرتی سہکتھ |

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ

ہیڑت اومر (راہ)

ہیڑت اومر (راہ)

آٲ کے مختصر حالات تم ”اردو کی دوسری کیتاٲ“ میں پڑھ چکے ہو۔

آٲ کے مختصر حالات تم ”اردو کی دوسری کیتاٲ“ میں پڑھ چکے ہو۔

آٲ کے مختصر حالات تم ”اردو کی دوسری کیتاٲ“ میں پڑھ چکے ہو۔

یہاں کچھ زیادہ تفصیل سے ذکر کئے جاتے ہیں۔ ذرا غور سے پڑھو

یہاں کچھ زیادہ تفصیل سے ذکر کئے جاتے ہیں۔ ذرا غور سے پڑھو

اور یاد رکھو۔ حضرت ابو بکرؓ نے اپنے انتقال کے وقت حضرت عمرؓ کو

اور یاد رکھو۔ حضرت ابو بکرؓ نے اپنے انتقال کے وقت حضرت عمرؓ کو

اپنا جانشین مقرر فرما دیا تھا۔ چنانچہ انتقال کے بعد باضابطہ بیعت

اپنا جانشین مقرر فرما دیا تھا۔ چنانچہ انتقال کے بعد باضابطہ بیعت

ہوگئی اور حضرت عمرؓ نے کام شروع کر دیا۔ آٲ نے کل ساڑھے

ہوگئی اور حضرت عمرؓ نے کام شروع کر دیا۔ آٲ نے کل ساڑھے

دس برس حکومت کی۔ لیکن اتنی ہی ذرا سی مدت میں روم و ایران کے

دس برس حکومت کی۔ لیکن اتنی ہی ذرا سی مدت میں روم و ایران کے

شہادہ : انتخاب - نیرباچن، کھے - شیکا، کیکڑوں - لکھ کوٹا، ہزاروں - ہااار ہااار، ہڈنام - ہڈنام
اسممان، عزتیں - مان اسممان، خاک - ماٹا، ڈول، غیبت، گیبوت، چغلی، ڈورنام، شکایت - اذبیوایوایو

پرنچے اڑ کئے۔ قیصر و کسری جن کے نام سے کبھی عربوں کے بدن

پارخچے اڈ گایے۔ کایخار ا کخرا جنکے نام خے کتبی آرابو کے بدن
تথাপি اےت اہل سامےر مध्ये روم اےبھ ایرانےر سامراجی ٹوکرا ٹوکرا ہئے گےل،

میں کپکی پیدا ہو جاتی تھی، اب ان کے تخت انہی بدوؤں کے ہاتھوں

مے کاپکاپی پیدا ہ جاتی تی۔ آراب این کے تاخےت اُنہی بدنڈو کے ہاتھ
کایخار اےبھ کخرا یادےر نامے کون اےک سامےر آرابدےر شریےر کسپن سڑی

میں تھے۔ وہی عرب جو درختوں اور پتھروں کے آگے سر جھکاتے تھے۔

مے تھے۔ اہی آراب جو درختو آاور پاخرو کے آگے خےر جوہکاتے تھے
ہئے یےت، اখন تادےر سینگاسن اے سکل گامی لوکدےر ہاتے خیل۔ سہی

دیوی اور دیوتاؤں کے آگے ناک رگڑتے تھے، بادشاہوں کے سامنے

دےبی آاور دےوتاڈ کے آگے ناک رینگاڈتے تھے بادشاہ کے سامنے
آرابواسی، یارا بھ اےبھ پاخےرےر سامنے ماخا نت کرات، دےب-دےبیےر سامنے

سجدہ کرتے تھے، اب جو باہر نکلتے ہیں تو اس شان سے کہ نہ

سجدا کراتے تھے۔ آراب جو باہےر نیکلتے ہے تو اِس شان خے کے نا
ناک خربھ کرات، راجا-بادشاہےر سامنے سجدا ہ کرات۔ اখন کےڈ باہیےر بےر

بادشاہوں کو خاطر میں لاتے ہیں، نہ سلطنتوں کی پروا کرتے ہیں،

بادشاہ کو خاتےر مے لاتے ہے۔ نا سولتاناتو کی پےرویا کراتے ہے،
ہلے امان جان-جانکےر ساتھ بےر ہئے یے، نا تارا کون بادشاہےر خاتیر

نہ فوجوں سے ڈرتے ہیں۔ لاکھوں آدمی انھیں روکنے کے

نا فوجو خے ڈرتے ہے۔ لاکھو آادمی اُنہی رکنے کے
کےر، نا کون سامراجیےر خار خاےر، نا کون سہن-سامنکو بئے پای۔ لاکھ لاکھ

شکارث : رنج - کسٹ، فوراً - تখন، تখনہی تھکھنا، نارنگی - انسؤسٹٹی، تامل - چنتا-بابنا، بھج -

پاٹھے دےوےا، بھگڑے - بگڈا، مٹ جایا - مٹے یای، میماہسا ہئے، معمولی معمولی - خاٹ خاٹ ساخارہ۔

لئے بڑھتے ہیں، لیکن جو سامنے آتا ہے تنکے کی طرح بہہ جاتا ہے۔

لیکن جڑ سے جڑ سے آتا ہے تنکے کی طرح بہہ جاتا ہے۔
لیکن جڑ سے جڑ سے آتا ہے تنکے کی طرح بہہ جاتا ہے۔

تم پڑھ چکے ہو کہ حضرت ابوبکرؓ نے اپنے عہدِ خلافت میں عہد

تو تم پڑھ چکے ہو کہ حضرت ابوبکرؓ نے اپنے عہدِ خلافت میں عہد
تو تم پڑھ چکے ہو کہ حضرت ابوبکرؓ نے اپنے عہدِ خلافت میں عہد

رسالت کا نظام علیٰ حالہ قائم رکھا اور اس میں کوئی اضافہ نہیں کیا۔

رسالت کا نظام علیٰ حالہ قائم رکھا اور اس میں کوئی اضافہ نہیں کیا۔
رسالت کا نظام علیٰ حالہ قائم رکھا اور اس میں کوئی اضافہ نہیں کیا۔

لیکن جب حضرت عمرؓ کے عہدِ خلافت میں بہت سے ملک

لیکن جب حضرت عمرؓ کے عہدِ خلافت میں بہت سے ملک
لیکن جب حضرت عمرؓ کے عہدِ خلافت میں بہت سے ملک

فتح ہوئے۔ بہت سی فوجیں مسلمان ہوئیں تو خلافت کا نظام

فتح ہوئے۔ بہت سی فوجیں مسلمان ہوئیں تو خلافت کا نظام
فتح ہوئے۔ بہت سی فوجیں مسلمان ہوئیں تو خلافت کا نظام

وسیع کرنا پڑا اور اس نے باقاعدہ اسلامی حکومت کی شکل اختیار کر لی۔

وسیع کرنا پڑا اور اس نے باقاعدہ اسلامی حکومت کی شکل اختیار کر لی۔
وسیع کرنا پڑا اور اس نے باقاعدہ اسلامی حکومت کی شکل اختیار کر لی۔

اس حکومت کے انتظامات کی فہرست بہت لمبی ہے۔ یوں سمجھ لو

اس حکومت کے انتظامات کی فہرست بہت لمبی ہے۔ یوں سمجھ لو
اس حکومت کے انتظامات کی فہرست بہت لمبی ہے۔ یوں سمجھ لو

شمارہ : متاثر - پرभावित करा، خوش خط - سوندر हस्ताक्षर، اپنا پتہ - نیजेर ठिकाना، اصلاح - संशोधन ।

شمارہ : متاثر - پرभावित करा، خوش خط - سوندر हस्ताक्षर، اپنا پتہ - نیजेर ठिकाना، اصلاح - संशोधन ।
شمارہ : متाثر - प्रभावित करा، خوش خط - सुन्दर हस्ताक्षर, अपना पते - निजेर ठिकाना, اصلاح - संशोधन ।

کہ اس زمانے کی ایک متمدن سلطنت کا کوئی شعبہ ایسا نہ تھا جو

کہے ایس زمانے کے ایک متمدن سلطنت کا کوئی شعبہ ایسا نہ تھا جو کہے ایس زمانے کے ایک متمدن سلطنت کا کوئی شعبہ ایسا نہ تھا جو

آپ نے قائم نہ کیا ہو۔ لیکن ان سب کی بنیاد جمہوریت

آپ نے قائم نہ کیا ہو۔ لیکن ان سب کی بنیاد جمہوریت

اور صحیح اسلامی تعلیمات پر تھی۔ آپ نے مجلس شوریٰ قائم کی،

آپ نے مجلس شوریٰ قائم کی، اور صحیح اسلامی تعلیمات پر تھی۔ آپ نے مجلس شوریٰ قائم کی،

اکابر صحابہؓ اس کے ارکان تھے۔ تمام اہم معاملات اسی مجلس

اکابر صحابہؓ اس کے ارکان تھے۔ تمام اہم معاملات اسی مجلس

کے مشورے سے طے ہوتے تھے۔ اور عام مسلمانوں کو بھی

کے مشورے سے طے ہوتے تھے۔ اور عام مسلمانوں کو بھی

نہایت آزادی کے ساتھ رائے دینے کا اختیار دیا۔ مفتوح ملکوں کو

نہایت آزادی کے ساتھ رائے دینے کا اختیار دیا۔ مفتوح ملکوں کو

متعدد صوبوں اور ضلعوں میں تقسیم کیا اور ان کی مردم شماری کرائی۔

متعدد صوبوں اور ضلعوں میں تقسیم کیا اور ان کی مردم شماری کرائی۔

شکارت : سقہ - نیک، فوٹنوٹ، ٹیکا، سیاہی حاشیوں، خٹیے خٹیے اٹھانا، کھنڈ - مٹاؤ، موٹے فہلا، - خواش اقارب

قابل کاشت زمینوں کا بندوبست کرا کے ان کی پیداوار پر خراج اور

کابعلہ کاشت یمنیوں کا بندوبست کاراکہ ان کی پیداوار پر خراج اور
فصلوں کے لیے خراج اور خراج کے لیے خراج اور خراج کے لیے خراج اور

عشر مقرر کیا۔ تجارت پر چنگی لگائی۔ صوبوں میں گورنر، کلکٹر، میرنشی

عشر مقرر کیا۔ تجارت پر چنگی لگائی۔ صوبوں میں گورنر، کلکٹر، میرنشی
عشر مقرر کیا۔ تجارت پر چنگی لگائی۔ صوبوں میں گورنر، کلکٹر، میرنشی

اور خزانچی مقرر کئے، عدالت اور پولیس کے محکمے علیحدہ قائم کئے

اور خزانچی مقرر کئے، عدالت اور پولیس کے محکمے علیحدہ قائم کئے
اور خزانچی مقرر کئے، عدالت اور پولیس کے محکمے علیحدہ قائم کئے

اور ہر ضلع میں فصل مقدمات کے لئے قاضی مقرر کئے، قانون

اور ہر ضلع میں فصل مقدمات کے لئے قاضی مقرر کئے، قانون
اور ہر ضلع میں فصل مقدمات کے لئے قاضی مقرر کئے، قانون

کی عام واقفیت کے لئے محکمہ افتاء قائم کیا، عام نگرانی اور دیکھ

کی عام واقفیت کے لئے محکمہ افتاء قائم کیا، عام نگرانی اور دیکھ
کی عام واقفیت کے لئے محکمہ افتاء قائم کیا، عام نگرانی اور دیکھ

بھال کے لئے محکمہ احتساب قائم کیا۔ بیت المال کے لئے عظیم الشان

بھال کے لئے محکمہ احتساب قائم کیا۔ بیت المال کے لئے عظیم الشان
بھال کے لئے محکمہ احتساب قائم کیا۔ بیت المال کے لئے عظیم الشان

عمارت بنوائی اور تمام ملک کے محاصل کے آمد و خرچ کے

عمارت بنوائی اور تمام ملک کے محاصل کے آمد و خرچ کے
عمارت بنوائی اور تمام ملک کے محاصل کے آمد و خرچ کے

شکارت - ایکانت - حوائج ضروریہ، آتیا - نفس، اتیرکتا - تفریط، سکوچن، اتیانتا - افراط، شکار
شکارت - ایکانت - حوائج ضروریہ، آتیا - نفس، اتیرکتا - تفریط، سکوچن، اتیانتا - افراط، شکار
شکارت - ایکانت - حوائج ضروریہ، آتیا - نفس، اتیرکتا - تفریط، سکوچن، اتیانتا - افراط، شکار

حساب و کتاب کا مکمل انتظام کیا۔ عام ضلعوں اور صوبوں میں

حساب و کتاب کا مکمل انتظام کیا۔ عام ضلعوں اور صوبوں میں
 حساب و کتاب کا مکمل انتظام کیا۔ عام ضلعوں اور صوبوں میں
 حساب و کتاب کا مکمل انتظام کیا۔ عام ضلعوں اور صوبوں میں

سرکاری عمارتیں بنوائیں۔ رفاہ عام کے سلسلے میں سڑک،

سرکاری عمارتیں بنوائیں۔ رفاہ عام کے سلسلے میں سڑک،
 سرکاری عمارتیں بنوائیں۔ رفاہ عام کے سلسلے میں سڑک،
 سرکاری عمارتیں بنوائیں۔ رفاہ عام کے سلسلے میں سڑک،

پل، مکہ اور مدینہ کے درمیان ہر ہر منزل پر چوکیاں سرائیں

پل، مکہ اور مدینہ کے درمیان ہر ہر منزل پر چوکیاں سرائیں
 پل، مکہ اور مدینہ کے درمیان ہر ہر منزل پر چوکیاں سرائیں
 پل، مکہ اور مدینہ کے درمیان ہر ہر منزل پر چوکیاں سرائیں

اور پانی کے مخزن تیار کرائے، زراعت کی ترقی کے لئے

اور پانی کے مخزن تیار کرائے، زراعت کی ترقی کے لئے
 اور پانی کے مخزن تیار کرائے، زراعت کی ترقی کے لئے
 اور پانی کے مخزن تیار کرائے، زراعت کی ترقی کے لئے

ملک میں متعدد نہریں کھدوائیں۔ عراق میں کوفہ، بصرہ، موصل

ملک میں متعدد نہریں کھدوائیں۔ عراق میں کوفہ، بصرہ، موصل
 ملک میں متعدد نہریں کھدوائیں۔ عراق میں کوفہ، بصرہ، موصل
 ملک میں متعدد نہریں کھدوائیں۔ عراق میں کوفہ، بصرہ، موصل

اور مصر میں فسطاط جیسے بڑے بڑے شہر بسائے، کئی مسجدیں بنوائیں،

اور مصر میں فسطاط جیسے بڑے بڑے شہر بسائے، کئی مسجدیں بنوائیں،
 اور مصر میں فسطاط جیسے بڑے بڑے شہر بسائے، کئی مسجدیں بنوائیں،
 اور مصر میں فسطاط جیسے بڑے بڑے شہر بسائے، کئی مسجدیں بنوائیں،

ملک کے سارے اندھوں، لنگڑوں اور معذوروں کے لئے

ملک کے سارے اندھوں، لنگڑوں اور معذوروں کے لئے
 ملک کے سارے اندھوں، لنگڑوں اور معذوروں کے لئے
 ملک کے سارے اندھوں، لنگڑوں اور معذوروں کے لئے

شکارت : لاکڑی - لاکڑی، ہائی - ہائی، جمائی - جمائی، جی - جی، امانوہیتا - امانوہیتا، بے توجہی - بے توجہی،
 کاٹ، فرض - فرض، ابشیا پالنی، وظیفہ - وظیفہ، نفل دویا - نفل دویا، حتی الوسع - حتی الوسع، ساہمات - ساہمات،

وظیفے مقرر کئے۔ فوج کا بڑا زبردست انتظام کیا۔ چند برسوں میں

وہیہ فہ مباررار کیے۔ فہج کا بڑا یبردست ہتیہام کیا۔ چاند برہو مہ
ہاتا نیرہارن کرہن۔ سہنیک ہتیاہہر ہیراٹ ہبہہا کرہلہن۔ کہیہک ہہرہر

کئی لاکھ مسلح فوج تیار کر لی۔ تمام بڑے بڑے اہم مقامات اور

کایہ لاکھ مہسالہا فہج تہیار کارلی تامام ہڈہ ہڈہ آہام ماکامات آہور
مہیہ کہیہک لاکھ ہڈاہتہ سہسہجیت سہنہ تہری کرہ فہلہن، سمست ہڈ ہڈہورہتہورہ ہٹانہ ہبہ

سرحدوں پر چھاؤنیاں قائم کیں اور مضبوط قلعے تیار کئے۔

ہہر ہڈ ہر ہاٹنہیا کایہم کی آہور مہبوت کیلہیہ تہیار کیہیہ،

سہماستہر ہور ہاٹنہ ہڈہ تولہن آہر مہبوت ہورہ تہری کرہن۔

فوج کے علاوہ ملک کے امن وامان کے لئے پولیس کا محکمہ الگ

فہج کہ آلاہیہا ہلک کہ آہمن ہ آہمان کہ لیہیہ ہلش کا ماہکامہ آالہہ
سہناہاہنہی ہاڈاہ ہہشہر نیراہتار ہنہ ہلش ہتیاہہ ہٹہکہاہہ

قائم کیا۔ حکومت کے عہدہ داروں کی نہایت سختی سے نگرانی کرتے،

کایہم کیہا۔ ہکومت کہ ہہداہدار ک نہ ہایت سہتی ہہ نہہرانی کارتہ،
ہرتیٹا کرہن۔ راکٹہر سہرکاری کرمکرتاہدہر اتہتہ کٹہورہاہہ ہرہہہہہہ کرہتہن۔

کسی بڑے سے بڑے عہدہ دار کو معمولی سے معمولی آدمی پر زیادتی

کہہی ہڈہ ہہ ہڈہ ہہداہدار ک ما'مولیہہ ما'مولی آادمی ہر ہیہادتہی

کون ہٹہ ہدہہ ہفیسارہدہر ہ آہہہارہ سادارہہ مانہہہر ہرتی ہاڈاہاڈہی

کرنے کی جرات نہ تھی۔ عام اعلان کر دیا تھا کہ جن لوگوں کو اپنے

کارنہ کی ہاراآات نا ہی، آام ہ'لان کار دہیا ہا کہ ہین لہو کہ آاہنہ
کرار سادہس ہٹل نا۔ سادارہہ ہہہہہا دہن ہہ ہادہر نہج

ہرہارہہ : ہرم وہیا - لہجہا، ہرم، ہیرات - دان ہیرات، موافق - انہیہی، دہر - ہہہہہ، ہڑہیہو

- ہرتہہہی، ہڈہی، تڈرست - سہہ، مالدار - ہنہی، سمپد ہیہا۔

انصاف میں کسی کی رو رعایت نہیں کرتے تھے، حتیٰ کہ اپنی اولاد کو

ہنسا ف مہ کھئی کئی رر ریا یات نہی کارتہ تہ، ہانتا کہ آپانی آا اولاد کو
نیا ر بیچارہ ر کھترہ تینی کار و پکھ پاتیتھ کرتہن نا ۔ امانکی انیا ر کرلہ

بھی نہ چھوڑتے تھے، ایک لڑکا اسی میں قضا کر گیا۔ آپ نے

ہی نا کھڈتہ تہ ۔ اک لڈکا اسی مہ کا یا کار گیا ۔ آپ نہ
نیکہ ر کھلہکے و کھما کرتہن نا ۔ تا ر اک سبتان اباہہ ایتیکال کرہکھ ۔ ہ رت ا مہ را ۔

مذہب اسلام کی بڑی خدمت کی۔ آپ کے زمانے میں

ما یہاہہ اسیلام کئی بڈی کھدمت کی ۔ آپکے یمانہ مہ
اسیلام ڈمرہ ر بڈ کھدمت کرہکھن ۔ تا ر شاسناملہ ہا ہار ہا ہار مانوش

ہزاروں آدمی مسلمان ہوئے۔ ہزاروں مسجدیں بنوائیں۔

ہا ہارو اادمی موسلمان ہرہ، ہا ہارو مسجیدی بانو یای،
موسلمان ہرہکھ ۔ ہا ہار ہا ہار مسجید نیما ر کرہکھن ۔

حرم شریف اور مسجد نبوی کی عمارت بہت تنگ تھی،

ہارام شریف آا و ر مسجیدہ نبوی کئی امارت بھت تنگ تھ،
ہرہم شریف اہ و مسجیدہ نبوی ر بلڈنگ انہک س نکی ر کھل،

اس کو وسیع کرایا، مجاہدین کے بال بچوں کے وظیفے مقرر کئے،

اوسکو ویا سئی کرایا، موحا ہدین کہ بال باکھو کہ ویا فہ موحا ررار کیہہ ۔
تینی اہاکہ ر شسنت کران ۔ موحا ہدہدہ ر سبتان-سبتتیر جنی ہاتا نی ر رار کرہن ۔

اللہ کی کتاب اور رسول کے فرمان کو سارے ملک میں پھیلا یا۔

آاللہ کی کتاب آا و ر راسول کہ فرمان کو سارہ مولک مہ فیلایا ۔
آاللہ کی کتاب اہ و راسول سا ۔ اہ ر بانی سمنرہ راکھہ کھڈیہہ دن ۔

شکار : مشعل - ممال، بات، چکا - چمکیہ، حیوانات - حیوان، تقریر - بکرتا، خوب غور -
گتیرتاہہ کھتا ہا ہا ۔ انا نچہ - اتاہ، پیوٹی - پیوٹی، آمد رت - آسا یا ویا، انہو - تارا ۔

ہر شہر میں قرآن کی تعلیم کے لئے مدرسے قائم کئے۔ جن میں معمولی لکھنا

ہار شہر میں کورآن کی تالیف کے لیے مدرسے کاہم کیے۔ جن میں ما'مولى لکھنا
پرتیٹ شہرے پبلیق کورآن شیکار جنی مدرسا پرتیٹا کرےھن۔ یار مہی ساڈارن لکھا۔

پڑھنا بھی سکھایا جاتا تھا۔ اسم لئے عربوں میں بہت جلد تعلیم پھیل گئی۔

پڑھنا ہی سیکھا جاتا تھا۔ اس لیے آرابو میں بہت جلد تالیف فیل گای۔
پڑاوشیکھا دےوایا ہت۔ ا کارنے گریبڈنر مہی خوب ڈرت شیکھا ھڈیے پڈھیل۔

آپ خود بڑے زبردست فاضل صحابی تھے۔ کئی مذہبی علم

آپ خواد بڈے یبردست فایئل ساہابی تھے۔ کای ماہہابی ایلم
تینی نیجے اکیجن بہ بڈ ڈٹو سترنر شیکیت ساہابی ھیلن۔ کیکٹ ماہہابنر ایلمکے

آپ نے ایجاد کئے۔ بڑے عابد و زاہد اور متقی تھے۔ خدا کے

آپنر ایجاد کیے۔ بڈے آرابنر ا باھنر آونر مونکای تھے۔ خواد کے
تینی آابیکار کرین۔ بڈ ایبادتکاری، دنیاڈاری ابن خواداڈیرو ھیلن۔

خوف سے ہر وقت کانپا کرتے تھے۔ نہایت معمولی اور سادہ کھانا

خوف ھے ہار ویاکت کاا کارتے تھے۔ نہایات ما'مولى آونر سادا خانا
آانناہر ہیے سربدا کاا پتین۔ ا کارنے ساڈارن ابن سادا سیدا خانا

کھاتے تھے۔ اور پھٹے پرانے کپڑے پہنتے تھے۔ آپ کی زندگی

خاتے تھے، آونر فاتے پورانے کاپڈے پھنرتے تھے۔ آپ کی یندنگی
تھنن ابن ھڈا پورانن کاپڈ پرتین۔ آانر ڈیبن-یاپن

ایسی سادہ تھی کہ آپ میں اور آپ کے غلام میں کوئی فرق نہ

ایھن ساداھ تھی کہ آپ میں آونر آپ کے گولام میں کوئی فرک نا
امن سہج-سرنل ھیل یے، آانر ابن آانر گولامنر مہی کون پارکھ

شکارف : سوارخ - گرت، لکٹار - باربار اکی ناگاڈے، رس چوس چوس کر، کھیوں - ماھیرا،
شہد - مڈو، ھتے - چاک، گھتی - پربنشا کرے۔ نظم - شتلا، درس - پاٹ، کلنی - بول۔

معلوم ہوتا تھا۔ آپ کا روزانہ خرچ کل دس آنے تھا۔ خیال

ما'لوم ہوتا تھا۔ آپ کا روزانہ خرچ کُل دھ آنے تھا۔ خےیال
بُکھا یےت نا۔ تّار پُرتیدینےر خرچ سَربموت دس آنا ہیل۔ لক্ষ

کرنے کی بات ہے کہ عرب، عراق، ایران، شام اور مصر جیسے

کارنے کی بات ہے کہ آراب، عراق، ایران، شام آاور میشر یےہے
کُرار بےبےر ہل، آراب، عراق، ایران، شام آےبے میشرےر مت دےش یے

ملک جس خلیفہ کے زیر فرمان ہوں اور قیصر و کسری کے

مُلك جس خلیفا کے یےرے فرمان ہُ آاور کایخار آ کھرا کے
خلیفار شاهی ہکُماذین آےبے روم و ایرانےر

خزانے جس کے قبضے میں رہے ہوں، اس کی زندگی ایسی

خایانے جسکے کبےہے مے راہے ہُ، آس کی یندےگی آہے
ذن ہانار یار آذین۔ سےہ خلیفار ڈیبن-یاپن آمن

سادہ ہو۔ دنیا سے رخصت ہوتے وقت تک بائیس لاکھ

خادی ہُ، دُنہیا آے رُخسوت ہتے ویاکت تک باہے لاکھ
سارل۔ دُنیا ہتے بیدای نےویار سَمی پربنت باہے لاکھ

اکاون ہزار تیس (۲۲۵۱۰۳۰) مربع میل زمین پر

آکان ہزار تےھ ماربا' مایل یمین پر
آکان ہزار ترش برب مایل ڈُمی ہیرت آمر رایی۔-آر

قبضہ ہو چکا تھا۔ رضی اللہ عنہ۔

کبیا ہُ چکا آا۔ راییاللاہ آانہ۔

آایتے آسےہیل۔ آاللاہ تّار آپر سبُط ہےہےن۔

شکارث : شای تاج - راج مُکُٹ، مرغیاں - مُرگیڈلو، سرخ - لال، دانہ ڈکا - دانار ٹُکرا،
کٹ کٹ - کُٹ کُٹ، دوڑتی - دویڈای، شکاری - شکاری، چوک - چوک، جمع - آکتریت۔

(۳) خلیفہ ولید بن عبدالمک

خلیفہ اولید بن آبدول مالیک
خلیفہ اولید بن آبدول مالیک

خاندان بنی امیہ کا خلیفہ ولید بن عبدالمک اپنے باپ کی وصیت

خاندانہ بنی اوماہیا کا خلیفہ اولید بن آبدول مالیک آپنہ باپ کی اوسییات
بنی اوماہیا ہنشر خلیفہ اولید بن آبدول مالیک تار پتار اخییات

کے مطابق ۸۶ھ میں خلافت کے تخت پر بیٹھا، اس وقت

کے موتا بک ۛۛ ہیزی مے خہلافت کت تات ہر ہرتا ا ہس اوارکت

انویاری خیاشی ہیزیتہ خہلافتہر سینگاسنہ اذیٹت ہن ا تখন

اسلامی حکومت میں جھگڑا فساد کہیں نام کو بھی نہ تھا۔ سارے ملک

ہسلائی ہکومت مے آااا-فاساد کاہی نام کو ہیا نا تا، سارہ مولک

ہسلائی راتھہ آااا فاسادہر کوان نامہی خیل نا ا سارا دہشہ

میں امن تھا۔ آپس کے میل و محبت کی وجہ سے مسلمانوں کی قوت

مے آمنا تا، آپس کت میل ا مہرت کت اااا خت مسلمانو کی کووات

نیراپتاا خیل ا ہرہر میل مہرت تاکار کارنہ موسلماندہر شکتی

بڑھ گئی۔ اور انھیں بہت زیادہ کامیابی ہونے لگی۔ ایک طرف ملک

ہڈہ ااری، آاور اناہی ہت ہیااداہ کامیاری ہنہ لاری ا اک ترف مولک

ہہڈہ یاری اہہ تارا آوبہی سفلكام ہتہ تاکے ا اکدیکے راتھہر

کا انتظام بہت بہتر ہو گیا۔ جگہ جگہ کنوئیں کھدے گئے، سڑکیں

کا ہنہتہام ہت ہہتار ہ گیا، اااا اااا کویا-ہ آودہ اارے، سڈکی

ہربہنا آوبہی اتل ہرے یاری ا سنانہ سنانہ کوپ آنن کرا ہرے، راسا

شکار : سترک، سترک کرا، تام، سمسٹ، ہنڈہ، اآھی، دیکر، دہخہ، اثار، اآاا، آوکنہ، سترک، سترک،

قیدی، ہندی، گونسے، ہاسا، ہاریں، ہسٹاکال، اااا، اآاا، کالکاکلی، دکر، دہخہ، کاہنی ا

بنیں، محتاج خانے قائم ہوئے، مسجدیں تیار ہوئیں، مدرسے کھلے،

باناری، موہتاج خانے کاہم ہئے، مسجیدی تہیاری ہئی، مادیراسے خولے، تہری کرا ہئی، اباویدہر باسستان نیماں کرا ہئی، مسجیدسموہ نیماں ہئی، مادیاسا خولا ہئی

شفاخانے جاری ہوئے، یتیم خانے بنے، اندھوں، لولوں اور

شایا خانے جاری ہئے، اہیم خانے بانایے، آکھو، لولو، آوور ہاسپاتال চালو ہئی، اہیمخانا تہری ہئی، اکھ، خوڈا اہو

معذوروں کے لئے باقاعدہ انتظام ہوا۔ غرض سارا ملک آباد اور خوش

ما'یرو کی لیئے با کا'دا اہئےیام ہئی۔ گری با سارا مولک آباد آوور خوہ ما'یرودہر جنی یثایث باباہا ہئی۔ موٹکثا سارا دہش اوننہ اہو سہال

حال ہو گیا۔ دوسری طرف مسلمان سپہ سالاروں نے ساری دنیا الٹ

ہال ہئی گیا۔ دوہری ترف مسلمان سپاہ سالاروں نے ساری دونیا اولٹ اباہا ہئے یای۔ انی دیکے مسلمان سناپاتیگن سمسٹ جگتکے اولٹ

پلٹ ڈالی۔ محمد بن قاسم نے سندھ پر چڑھائی کی اور سندھ سے

پالٹ ڈالی۔ موہامد بین کاشم نے سیکر پر چڈہای کی آوور سیکر ہئے پالٹ کرے فہلے۔ موہامد بین کاسیم سیکر اپر آکرمگن کرہن اہو سمنڈ ہتہ

لے کر ملتان تک سارا علاقہ فتح کر لیا۔ مسلمہ نے رومیوں کے پرچے اڑا

لے کر مولتان تک سارا اہاکا فاتاہ کارلییا ماسلاما نے رومیو کے پرکٹہ اڈا مولتان پریسٹ سمسٹ اہاکا بیجی کرے نهن۔ ماسلاما نامک سناپاتی رومیوہر ٹوکرا ٹوکرا کرے

دئے۔ قتیہ نے سمرقند سے کاشغر تک قبضہ کر لیا اور آگے بڑھ کر شاہ چین کو

دیئے، کوٹاہبا نے سمراکند ہئے کاشگڈ تک کببا کار لییا آوور آگے بڈہ کر شاہ چین کو دیئے۔ سناپاتی کوٹاہبا سمراکند ہتہ کاشگڈ پریسٹ بیجی کرے نهن اہو سامنے اہسار ہئے چینر بادشاہکے

شمارش : چہن - باگیٹا، گ - گان، فریاد - آرتناہ، قفل - تالا، کنی - چابی، دندانون - دانت، مضبوطی - دھرتا۔

(۴) حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ

ہجرت عمر بن আবدول آییہ (رہ:)

خلیفہ ولید کے بھائی خلیفہ سلیمان کا ۹۹ھ میں جب انتقال ہوا

خلیفہ اولاد کے بھائی خلیفہ سولہ ایمان کا نیرانہ ہی ہجری مے جب ہن تکال ہوا
خلیفہ اولاد کے پور خلیفہ سولہ ایمان ۱۱۱ ہجری تے یکن ہن تکال کرون

توان کی وصیت کے مطابق حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ

تو انکی وسیت کے مطابق حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ

تو انکی وسیت کے مطابق حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ

خلیفہ ہوئے۔ آپ نے کل ڈھائی برس حکومت کی۔

خلیفہ ہوا۔ آپ نے کل ڈھائی برس حکومت کی۔

خلیفہ ہوا۔ آپ نے کل ڈھائی برس حکومت کی۔

لیکن اتنی ہی مدت میں ملک کی کاپیٹ دی۔ ہر قسم کا ظلم

لیکن اتنی ہی مدت میں ملک کی کاپیٹ دی۔ ہر قسم کا ظلم

لیکن اتنی ہی مدت میں ملک کی کاپیٹ دی۔ ہر قسم کا ظلم

وستم موقوف ہو گیا، نسل و قوم کا فرق مٹ گیا اور امیر

وستم موقوف ہو گیا، نسل و قوم کا فرق مٹ گیا اور امیر

وستم موقوف ہو گیا، نسل و قوم کا فرق مٹ گیا اور امیر

وغریب ایک درجہ پر آ گئے۔ بس یہ معلوم ہوتا تھا کہ زمانہ ستر

وغریب ایک درجہ پر آ گئے۔ بس یہ معلوم ہوتا تھا کہ زمانہ ستر

وغریب ایک درجہ پر آ گئے۔ بس یہ معلوم ہوتا تھا کہ زمانہ ستر

شکارت : جابل - مٹھ، اکت، عابد - آبد، ابادتکاری، قبضہ کرنا - آرتھ کرا، نیرتھنے آنا،
بالکل - پوروپور۔

پچھتر برس پیچھے لوٹ گیا ہے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ

پنچاوتور بربھ پلھے لوٹ گیا ہے آاور ہب رت آابو بکر (را) آآنھ
پنچاوتور بھر پلھلے ےھے آبھ ہب رت آابو بکر رالیاآللاھ آآنھ

و حضرت عمر رضی اللہ عنہ حکومت کر رہے ہیں۔

آ ہب رت آامر (را) لھکومت کار رالے ہے ۔

آبھ ہب رت آامر رالیاآللاھ آآنھ رالھتھ کرےھن ۔

اسلام کی روح جو بادشاہت کے زور میں مردہ ہو چلی تھی،

آسلاام کی رھ آو بادلشالھت کے زور میں مرده ہو چلی تھی ۔

آسلاامےر آراڻ یا رالھتھنرےر آاآے مرآھآراے ہبے گیاےھل۔

آب پھر سے زندہ ہو گئی۔ ہر طرف اللہ و رسول کا ذکر ہونے لگے

آار فےر ہے بھندا لھالیا۔ ہار ترلف آاللاھ آ راسول کار بیکر لھنہ لالے
آھن آا آابار پونآاآبببب ہبے ےل سربآر آاللاھ آبھ راسولےر آالوآنا ہتے لالال

اور آخرت جیسے لوگ بھول چکے تھے، اب پھر اس کا دھیان

آاور آاھراآ آےآھے لول آول آوکے آے ۔ آاب فےر آس کار آبآاآن
آبھ راسولےر آالوآنا ہتے لالال ۔ آبھ بے آاھراآ لولے آولے گیاھل آھن آا پونراے سمرڻ

آنے لگا۔ دنیا تو ہمیشہ دین کے قدموں تلے رہی ہے۔

آانہ لالال ۔ آونآا آو ہالےشا آاآ کے کدمو آلے رالھ ہے ۔

ہتے لالال ۔ آونیاآو سربآاآ ڈمرآاآاآرڈےر آالےر آاآے آل۔

یاد کرو عرب کے بدوؤں کے پاس کیا تھا؟ لیکن اسلام

آاآا کارو، آارب کے بآوو کے آاھ کیا آا؟ لےکآآ آسلاام

سمرڻ کر آاربےر آشلكآل لولآڈےر آلکآ کی آل۔ کلسآ آسلاام

شکارآ : بہترین - آوآم، سورآ - سورےر، آرڈش - آورڻ، آوآ - آآبالبآل، ہاآآاآا، آا -
آاآ ڈےر آاآا، آواآلے - آاآ، آآر - آاآرڈ - آاآرڈ آاآلآ، آوآآرڈ - آاآ ہوآا، آرڈ - ڈار آاڻ ۔

جو آیا تو چند ہی برس میں قیصر و کسری کے تخت اُن کے

جو آیا تو چاند ہی بربھ مے کایھار ا کیھرا کے تھت اُنکے
 یکن آاسل، تھن کئےک بھرےر مہیے روم اےو پارسا سماءےر سینگھاسن تادےر

قدموں کے نیچے آگئے اور مدینہ سونے چاندی اور ہیرے

کدموکے نیچے آگایے آاور مدینا سونے چاندی آاور ہیرے
 پدتلے اےسے گئےھیل آار مدینا سونے، روپے اےو ہیرا

جواہرات سے پٹ گیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے

آاویاھیرا تھے پآٹ گیا۔ ہیرت اومر بن آابدول آاویہ (رہے) کے
 آاویاھیرا تھے پآٹ گیا۔ ہیرت اومر بن آابدول آاویہ (رہے) کے

وقت میں بھی یہی ہوا۔ دینداری کے بڑھتے ہی ہر قسم کی ترقی کے

وگاقت مے آہی اےیہی ہوا۔ دینداری کے بڑھتے ہی ہر قسم کی ترقی کے
 وگاقت مے آہی اےیہی ہوا۔ دینداری کے بڑھتے ہی ہر قسم کی ترقی کے

دروازے کھل گئے اور بلا ظلم و زیادتی کے دولت کے ڈھیر

دروازے کھل گئے اور بلا ظلم و زیادتی کے دولت کے ڈھیر
 دروازے کھل گئے اور بلا ظلم و زیادتی کے دولت کے ڈھیر

لگ گئے۔ اگر کہیں دس بیس برس زندہ رہتے تو خدا معلوم دنیا

لگ گئے۔ اگر کہیں دس بیس برس زندہ رہتے تو خدا معلوم دنیا
 لگ گئے۔ اگر کہیں دس بیس برس زندہ رہتے تو خدا معلوم دنیا

کہاں سے کہاں پہنچ جاتی۔ لیکن افسوس کہ ابھی تین برس بھی

کہاں سے کہاں پہنچ جاتی۔ لیکن افسوس کہ ابھی تین برس بھی
 کہاں سے کہاں پہنچ جاتی۔ لیکن افسوس کہ ابھی تین برس بھی

شمارتھ : پیسے - پوسا۔ مسکین - گریب، آزاد - موقت۔ فحش - افسول، اجتناب - بیرت آاا،
 بےتھ آاا، جھڑا کرے - بگاڑا کرے، گالی - گالی دےو، ہلکی ہلکی بساند - ہلکا گھٹا۔

হরাম রে হে গী - মীস অণী طرف سے کوئی بات نہیں کر سکتا - جو کر سکتا ہوں

হারाम রাहेगी । माई आपनि तरफ छे कुयि बात नेहि कार सिकता । जू कार सिकता छे हाराम থাকবে । আমি निजेर पক্ষ हते किछुई करते पारि ना । या करते पारि

وه نبی کی پیروی کے ساتھ کر سکتا ہوں - کسی کو یہ حق نہیں ہے

ওহ নবী কি পায়রুবী কে साथ কার সিকতা ছে । কেছি কো ইয়ে হক নেহী হে তা নবী সা. -এর অনুসরণের সাথে করতে পারি । কারও এ অধিকার নাই

که خدا کی نافرمانی میں اس کی اطاعت کی جائے - جب تک میں

কে খোদা কি নাফরমানি মে উস্কি ইতাআত কি জায়ে । जब तक माई ये, आल्लाह ता'आलार नाफरमानीर ক্ষेत्रे तार अनुकरण करते पारवे । यतक्षण আমি

خدا کی اطاعت کروں اس وقت تک تم میری اطاعت کرنا،

খোদা কি ইতাআত কারো উস ওয়াক্ত तक तुम मेरी इताआत कारना । आल्लाह ता'आलार आनुगत्य करव, ततक्षण पर्यन्त तोमारा आमर आनुगत्य करवे ।

اور جب میں خدا کی نافرمانی کروں تو میری اطاعت

আওর जब माई खोदा कि नाफरमानि कारो तो मेरी इताआत आर यখন আমি आल्लाहर अबाध्याता करव तখন आमर आनुगत्य करा

تم پر فرض نہیں ہے - اشاعت و تدوین حدیث کا باقاعدہ کام

तुम पर फरय नेही हे । ईशाआत अ तादबीने हादीस का बाका'येदाह काम तोमादेर उपर फरय नय । ईसलामेर प्रचार एवं हादीस संकलनेर काज नियमतान्त्रिकभावे

آپ ہی کی جد و جہد سے شروع ہوا - رضی اللہ عنہ -

आप हि कि जाद ओया जाहद छे शुरू हया । रायियाल्लाह आनछ ।

ताँर प्रचेष्टायई शुरू हय । ताँर उपर आल्लाह ता'आला रहमत वर्षण करण ।

शब्दार्थ : مشتبه چیزوں, ভয়-ভীতি, - اندیشه, - বিদ্যমান, - موجود, - সাতার শিক্ষা, - তیرাকী, - সন্দেহজনক জিনিস, - ব্যবসায়ীবৃন্দ, - খটকা, - সন্দেহ, - কষ্ট, - সুন্দর চরিত্র, - حسن خلق, - সন্দেহজনক জিনিস, - ব্যবসায়ীবৃন্দ ।

آداب (آداب) ریت-نیت

(۱) پڑھنے کے آداب

پڑار نیام-کانون

علم بڑی نعمت ہے۔ جانوروں کو انسان انسان کو اچھا

ہلم بڈی نیامات ہے، جانواری کو ہنسان ہنسان کو آچھا

ہلم مہان نیامات۔ جانواریدےرکے مانوہ، مانوہکے اؤوم

انسان اور اچھے انسانوں کو خدا پرست انسان بنانا

ہنسان آاور آچھے ہنسانو کو آودا پورسؤ ہنسان بانانا

مانوہ اےبے مانوہدےرکے آاللہآبیرو بانانو

اسی کا کام ہے۔ علم کی تکمیل عمل سے ہوتی ہے۔ لہذا علم کی

اوس کا کام ہے۔ ہلم کی تاکمیل آامل ہے آتی ہے۔ لہآا ہلم کی

اےر کاج۔ ہلمےر پورآا آاملےر آارا ہے۔ سؤرآے ہلم

طلب کا شوق اور اس پر عمل کا ذوق پیدا کرو۔

آلب کا شوق آاور ہس پر آامل کا ہوق پڈا کارو۔

انہہہےر آاآھ اےبے اہار اپر آاملےر آاآھ سؤآی کر۔

۱۔ صبح سویرے اٹھ کر وضو کرو، نماز پڑھو، قرآن مجید کی

۱. آوےہ سبیرے اؤر کر اوہ کارو، ناماہ پڈھ، کورآن مآید کی

(۱) سکالے اؤرے آجو کر، ناماہ پڈ، کورآن مآیدےر

تلاوت کرو۔ پھر کسی قدر ناشتہ کر کے مدرسے کی تیاری کرو، اور

آلاویات کارو۔ آےر کھآ کدر ناہا کارکے مآدےرےے کی آیراری کارو آاور

آلاویات کر اآپر کآھ ناہا کرے مآدراہاہ آاویار پرسؤآی ناو۔ آار

شآارآ : شہاء - شہیدان، صدیقین - ساتہبادیگان، آدکین، آیا - لآآا، شرم، استعمال - ہابہار،

نکی - نیکیاں، انوآھ، آسان، آاس، لوما، لقمہ، آوشی، آوشنوی، سؤآی، رضادی، کوشی، نکی

مدرسه جانے سے پیشتر اپنا بستہ دیکھ لو کاپی، کتاب، قلم اور

مادراسے جانے سے پیشتر اپنا بستہ دیکھ لو۔ کاپی، کیتاب، کلم، آور
مادراسای یاویار پورے نیج بیاغ دےخے ناو۔ خاتا، کیتاب کلم اےب

دوات ہر چیز ساتھ لے لو۔ اگر کوئی ساتھی راستے میں مل جائے تو

داویات ہار چیج ساخ لےلو۔ آگار کوی ساخی راستے مے میل جایے تو
دویات پرتیجی جنیس سبے نیے یاو۔ یدی کون ساخی راستای میلے یای، تبے

اس سے پڑھنے لکھنے کی باتیں کرو، ادھر ادھر کی فضول اور

اس سے پڑھنے لکھنے کی باتیں کرو، ادھر ادھر کی فضول اور
وس سے پڑھنے لکھنے کی باتیں کرو، ادھر ادھر کی فضول اور
تار سبے لےخا-پڑا سببکرت کتھاوارتا بل۔ ادیک سیدیکےر اتیریکج اےب

بیہودہ باتیں مت کرو۔ اگر کوئی استاد یا کوئی اور بزرگ آدمی

بیہودہ باتیں مت کرو۔ اگر کوئی استاد یا کوئی اور بزرگ آدمی
بےخدا باتیں مت کرو۔ آگار کوی استاد اییا کوی آور بویرغ آادمی
انرکک کتھاوارتا بلبے نا۔ یدی کون استاد اتھا انیا کون بویرغ بایکیر سبے راستای

راستے میں مل جائیں تو انھیں سلام کرو۔ ایسے لڑکوں سے

راستے میں مل جائیں تو انھیں سلام کرو۔ ایسے لڑکوں سے
راستے مے میل جایے تو ونھی سالام کارو۔ ایخے لڑکو خے
دےخا ہی تبے تاکے سالام کر۔ امان خےلےدےر سبے

نہ ملو جو پڑھنے کا شوق نہ رکھیں اور بد اخلاق ہوں۔

نہ ملو جو پڑھنے کا شوق نہ رکھیں اور بد اخلاق ہوں۔
نا میلو جو پڑھنے کا شوق نا راکخی آور بد آخالاکھ ہ۔
میشبے نا یارا لےخا پڑار آاخرہ راکھے نا اےب دوشچریربان۔

۲۔ مدرسے میں وقت پر پہنچ جاؤ، جماعت کے کمرے میں

۲۔ مدرسے میں وقت پر پہنچ جاؤ، جماعت کے کمرے میں
۲. مادراسے مے ویانج پور پوھج یاو۔ جمآات کے کامرے مے
(۲) یخاسامیے مادراسای پوھے یاو۔ نیج شےلیکفے

شکدارث : دوکلمہ - دوٹی کالیمای، ترازو - پاللا، وچن کرار یلتر، محبوب - پریی، مراد - اددےشای،
شکدارث : دوکلمہ - دوٹی کالیمای، ترازو - پاللا، وچن کرار یلتر، محبوب - پریی، مراد - اددےشای،
ذخیرہ - پوجی، مٹاریا - مٹیے دیل، نیرمل کر دیل، برنگلی - بربسٹر ابسٹا۔

آدب سے بیٹھو۔ اور خیال رکھو کہ ہم یہاں کس کام کے لئے

آداب ہے بڑھو، آؤر خیال راکھو کہ ہام ایہا کیکھ کام کی
آدابہر سہجے بس اہب لکھن راکھہ یہ آمرا اہانہ کی کاجہر

آئے ہیں۔ اس کے سوا دوسری باتوں میں نہ لگو اور

لیہ آہے ہہ۔ ایسکے ساؤرا دھری باؤ مہ نا لاؤ آؤر
اؤدشہجے اہسہجی۔ اہجڈا انہ کاجہ لہجہ یہؤ نا۔ اہب

شوق سے پڑھو۔ جب استاد جماعت میں آئیں تو ادب سے

شؤک ہہ پڈھ۔ یب اؤساد جمااؤت مہ آہی اؤ آداب ہہ
منوہؤج سہکارہ پڈ یخن شیکھک شہجیکھف آاہن اؤن آدابہر سہجے

کھڑے ہو جاؤ، ان کو سلام کرو، آپس کی باتیں بند کر دو اور

خاڈہ ہ جؤ، اؤنکو سالام کراؤ آپھ کی باؤ بکھ کاردؤ آؤر
داڈیہ یؤ، اؤکے سالام کر۔ پراسپر کٹاوارا بکھ کرہ داؤ اہب

استاد کی طرف توجہ کرو۔ اگر ادھر ادھر دھیان کرو گے تو

اؤساد کی اؤرف اؤیاجؤ کارو۔ آگار اؤدہار اؤدہار خیان کارو گہ اؤ
اؤسادہر اؤی منوہؤجی ہؤ۔ یڈی اڈیک-سہڈیک لکھن کر اؤلہ سبک ہؤہ بکھؤت

سبق سے محروم رہو گے۔ یہ وقت بیکار جائیگا اور پھر سبق یاد نہ ہوگا۔

سبک ہہ ماہرہم راکھ گہ۔ ایہے اؤیاجؤ بیکار جاییگا آؤر فہر کھبک ایڈاد نا لگا۔
ہبہ۔ اہ سماناؤکو بیکار یابہ اہب پونرای سبک سمرہن ہبہ نا۔

جب استاد کمرے سے باہر جائیں تو شور نہ کرو، جو کام وہ

جب اؤساد کامرہ ہہ باہر جایی اؤ شور نا کارو۔ جؤ کام اؤہ
شیکھک یخن شہجیکھف ہؤہ باہرہ چلہ یان اؤن گولمال کرہبہ نا۔ یہ کاج اؤنی کرؤتہ

شہدارث : لباس - پوشاک، کھلائے - خاؤیابہ، سربمہر - سئل موہر لاگانو، آؤکھؤں - اؤکھ،
یقین - بکشاس۔

بتا جائیں اسے پورا کرو۔ جو کچھ پڑھو وہ گھر سے یاد کر کے آؤ۔

باتا جانیں اٹھ پورا کارو۔ جو کچھ پڑھو وہ گھر سے یاد کر کے آؤ۔
 باتا جانیں اٹھ پورا کارو۔ جو کچھ پڑھو وہ گھر سے یاد کر کے آؤ۔
 باتا جانیں اٹھ پورا کارو۔ جو کچھ پڑھو وہ گھر سے یاد کر کے آؤ۔

۳۔ اپنے استاد کا ادب کرو، جو بات سمجھ میں نہ آئے ادب سے

۳. آپنے اوستاد کا آادب کارو، جو بات سمبھ مے نا آایے آادب ھے
 (۳) نیاگ شیاککے سمبھان کر۔ ے کھا بوبے نا آاسے، تا آادبےر سببے

دو بارہ دریافت کرو۔ اپنے استاد سے عقیدت رکھو اور

دو بارہ دریافت کرو۔ اپنے استاد سے عقیدت رکھو اور
 دو بارہ دریافت کرو۔ اپنے استاد سے عقیدت رکھو اور
 دو بارہ دریافت کرو۔ اپنے استاد سے عقیدت رکھو اور

ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اپنے ہم مکتب طالب علموں سے

ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اپنے ہم مکتب طالب علموں سے
 ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اپنے ہم مکتب طالب علموں سے
 ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اپنے ہم مکتب طالب علموں سے

برادرانہ سلوک کرو ان کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ، ان پر مہربانی کرو،

برادرانہ سلوک کرو ان کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ، ان پر مہربانی کرو،
 برادرانہ سلوک کرو ان کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ، ان پر مہربانی کرو،
 برادرانہ سلوک کرو ان کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ، ان پر مہربانی کرو،

اپنی بڑائی نہ جتلاؤ، شریر لڑکوں کے پاس نہ بیٹھو۔ اگر وہ

اپنی بڑائی نہ جتلاؤ، شریر لڑکوں کے پاس نہ بیٹھو۔ اگر وہ
 اپنی بڑائی نہ جتلاؤ، شریر لڑکوں کے پاس نہ بیٹھو۔ اگر وہ
 اپنی بڑائی نہ جتلاؤ، شریر لڑکوں کے پاس نہ بیٹھو۔ اگر وہ

تم سے کوئی شرارت کریں تو صبر کرو یا استاد کو اطلاع دے دو۔

تم سے کوئی شرارت کریں تو صبر کرو یا استاد کو اطلاع دے دو۔
 تم سے کوئی شرارت کریں تو صبر کرو یا استاد کو اطلاع دے دو۔
 تم سے کوئی شرارت کریں تو صبر کرو یا استاد کو اطلاع دے دو۔

شکارت : گوبن کر، بھیا لیا، بچار، تبھیر، شاکتیاہن، اربل، کزور، کھا، بانیاں، سمبھان، تببیم :
 شکارت : گوبن کر، بھیا لیا، بچار، تبھیر، شاکتیاہن، اربل، کزور، کھا، بانیاں، سمبھان، تببیم :
 شکارت : گوبن کر، بھیا لیا، بچار، تبھیر، شاکتیاہن، اربل، کزور، کھا، بانیاں، سمبھان، تببیم :

۴۔ مدرسے کی کسی چیز کو خراب نہ کرو۔ اپنی کتابوں اور دوسرے

8. مادراسے کی کسے خراب کو خراب نا کارو آپنی کتیبو آاور دھرے
(8) مادراسار کون جنیسکے نط کرے نا | نیک بھیلے اےبھ انیان

سامان کو حفاظت سے رکھو، کتاب کا ادب کرو، اسے زمین

سامان کو ہیفایت ھے راکھو | کتیب کا آادب کارو | اوسے یمین
جنیسکے یھور ساھے راکھ | کتیبور آادب کر | اھاکے ماتیر

پر نہ رکھو، دور سے نہ پھینکو۔ کتاب کو نہ ہی بجاؤ اور نہ ہی

پر نا راکھو | دور ھے نا فیکو | کتیب کو نا ہیا باجاو آار نا ہیا
اوپر رےخ نا | دور ہتے نیکھپ کارو نا | کتیب شبد کرے رےخ نا اےبھ

اس سے ڈھکنے کا کام لو۔ قرآن کریم کی جتنی تعظیم کرو گے

اوس سے ااکنے کا کام لو | کورآنے کاریم کی جتہنی اا'ییم کارو گے
اا دیے ااکنار کاا کرےو نا | کورآن کاریمرے یات سمنان کرےے ااتہی

خوش نصیب بنو گے۔ کتاب کی صفائی کا خیال رکھو۔

خوش نسیب بنو گے | کتیب کی ساھائی کا خیال راکھو |
سو باگیاان ہے | کتیبور پرےخننار اراتی اٹھیا رےخ |

اس پر کچھ نہ لکھو، ضرورت کے لئے شروع میں اپنا نام

اوس پر کوک نا لیکھو | اارورے کے لیکے اور مے آاپنا نام
اےر اوپر کیو لیکھے نا ارایوآنے یادی اورےتے نیکرے نام

لکھ لو تو مضائقہ نہیں۔ جلدوں کی حفاظت کرو، احتیاط سے

لیکھ لو تو مایاکا نہی | ایلدو کی ہیفایت کارو | اہتیاا ھے
لیکھے ناو اےے کون اسوبیا نہی | کتیبور ہیفایت کر | یھور سچے

شکرث : نفرت - غنا، بیدھ، صلح - ممانسا، سکھ، بہترین - اوم آامل | دشنی - شکرثا،
شکرثا، - نیشن، پاخی، چڑیا، بن، اناور، جنگل، اپرہار، لازم، گرب، نا، سندر سار، خوش الحانی

انہیں بند کرو تاکہ اول اور آخر ورق جدا نہ ہو جائیں۔

উনہی بند کارو تاکہ آڈیال آوڑ آخیر وڑک جودا نا ہج جایی ۔

উہا بند کر ۔ یاতে پرথম এবং শেষ پاتا آلالادا ہئے نا যায় ۔

کتابوں کو کبھی دھوپ میں رکھ دو تاکہ کیڑوں سے بچی رہیں۔

کیتاؤ کو کبھی دھوپ مے راکھ دو تاکہ کীরو ہے باچی راکھ ۔

کیتاؤلوکے کখনو کখনو ریدرے داو یئن تا پوکا ماکڈ ہتے نیراپد تاکہ ۔

۵۔ اگر کوئی سبق پڑھتا ہو یا مطالعہ کر رہا ہو تو اس کے پاس

۵۔ آگار کوی سبک پڑھتا ہج ایڑا موتالےآ کار راکھ ہج تو ایسکے پاس
(۵) کڈے یڈی سبک پڑتے تاکہ اٹھا موتالاکر تے تاکہ تار نیکٹ

شور نہ کرو۔ کسی دوسرے کے خط کو بلا اجازت پڑھ لینا خیانت ہے۔

شور نا کارو ۔ کھجی دھرے کے خت کو بےلا ایجایت پڑھ لےنا خیانت ہے،
شورگول کرےو نا انی کارو چیٹی بےنا انومتیتے پڈے فےلا خےانت ۔

اور کسی کے آگے سے لکھا ہوا کاغذ اٹھا کر پڑھنے لگ جانا تہذیب

آوڑ کھجی کے آگے ہے لےکھا ہجی کاجج اٹھا کار پڈنے لاج جانا تہذیب
آوڑ کارو سممخ ہتے لیکھت کاجج اٹھیے پڈتے تاکہ ہڈت

کے خلاف ہے۔ عقل اور دانائی کے بڑھانے اور ہوشیاری

کے خےلاف ہے، آکل آوڑ دانایی کے ہڈھانے آوڑ ہشیاری

پرپہٹی ۔ ج্ঞان، بیکفگتا، بুদ্ধی آوڑ سابعاننا

و تجربہ کاری پیدا کرنے کے لئے کتابوں کا مطالعہ بڑی چیز ہے۔

آ تاجرابا کاری پیداکارنے کے لیکے کیتاؤ کا موتالےآ ہڈی چیج ہے ۔

و اہیکجتا لائبرے جئنی کیتاؤسممہرے موتا'آلالا کرا وڑتھپورن کاج ۔

نغمہ سرائی، چچھما، دوادوش، پریشم کٹ، محنت و مشقت : شکرارث :

- آشچرئ سممڈور گان ۔

(۲) لکھنے کے آداب

لیکھنے کے آداب

لیکھار آداب

(۱) پڑھنے کے بعد لکھنا سیکھنا ضروری ہے۔ پڑھنے کی تکمیل

۱. پڑھنے کے بعد لکھنا سیکھنا ضروری ہے۔ پڑھنے کی تکمیل

(۱) پڑھنے کے بعد لکھنا سیکھنا ضروری ہے۔ پڑھنے کی تکمیل

لکھنے سے اور لکھنے کی تکمیل پڑھنے سے ہوتی ہے۔

لیکھنے سے اور لکھنے کی تکمیل پڑھنے سے ہوتی ہے۔

لیکھنے سے اور لکھنے کی تکمیل پڑھنے سے ہوتی ہے۔

پس ان دونوں میں سے ہر ایک دوسرے کے لئے ضروری ہے۔

پس ان دونوں میں سے ہر ایک دوسرے کے لئے ضروری ہے۔

پس ان دونوں میں سے ہر ایک دوسرے کے لئے ضروری ہے۔

۲۔ لکھنا سیکھنے سے پہلے یہ سمجھ لو کہ یہ فن ہیرے کی انگوٹی ہے۔

۲۔ لکھنا سیکھنے سے پہلے یہ سمجھ لو کہ یہ فن ہیرے کی انگوٹی ہے۔

(۲) لکھنا سیکھنے سے پہلے یہ سمجھ لو کہ یہ فن ہیرے کی انگوٹی ہے۔

اگر انگلی میں رہے تو زینت ہے۔ اور منہ میں پڑ جائے تو زہر ہے۔

اگر انگلی میں رہے تو زینت ہے۔ اور منہ میں پڑ جائے تو زہر ہے۔

اگر انگلی میں رہے تو زینت ہے۔ اور منہ میں پڑ جائے تو زہر ہے۔

یعنی لکھنے کا فن اگر نیک طور سے استعمال کیا جائے تو ایک جوہر ہے۔

یعنی لکھنے کا فن اگر نیک طور سے استعمال کیا جائے تو ایک جوہر ہے۔

یعنی لکھنے کا فن اگر نیک طور سے استعمال کیا جائے تو ایک جوہر ہے۔

شواہد : سوت - داٹ کٹ مٹ، کچکا - پریکھا کر، آزماؤ، گھٹ - آئی، لڑکوں - لڑکوں

سوتا، متفق - ایکमत

سیکڑوں کام اس سے نکلتے ہیں اور ہزاروں فائدے اس سے

سیکڑوں کام اس سے نیکالنے سے آگے ہزاروں فائدے اس سے نکلتے ہیں اور ہزاروں فائدے اس سے
سے نکالنے سے آگے ہزاروں فائدے اس سے نکلتے ہیں اور ہزاروں فائدے اس سے

پہنچتے ہیں۔ اور اگر اُسے بُرے طور پر کام میں لاؤ تو ہزاروں

پہنچتے ہیں۔ اور اگر اُسے بُرے طور پر کام میں لاؤ تو ہزاروں
پہنچتے ہیں۔ اور اگر اُسے بُرے طور پر کام میں لاؤ تو ہزاروں

بُرائیوں کی جڑ ہے، فساد اس سے بڑھ جائے، رنجشیں اس سے

بُرائیوں کی جڑ ہے، فساد اس سے بڑھ جائے، رنجشیں اس سے
بُرائیوں کی جڑ ہے، فساد اس سے بڑھ جائے، رنجشیں اس سے

پیدا ہو جائیں نیک کام اس سے بدنام ہو جائیں اور عزتیں

پیدا ہو جائیں نیک کام اس سے بدنام ہو جائیں اور عزتیں
پیدا ہو جائیں نیک کام اس سے بدنام ہو جائیں اور عزتیں

اس سے خاک میں مل جائیں۔ لہذا جب تمہیں لکھنا آجائے

اس سے خاک میں مل جائیں۔ لہذا جب تمہیں لکھنا آجائے
اس سے خاک میں مل جائیں۔ لہذا جب تمہیں لکھنا آجائے

تو اُسے بُرے کام میں نہ برتو۔ کسی کی غیبت اور چغلی تحریر نہ کرو،

تو اُسے بُرے کام میں نہ برتو۔ کسی کی غیبت اور چغلی تحریر نہ کرو،
تو اُسے بُرے کام میں نہ برتو۔ کسی کی غیبت اور چغلی تحریر نہ کرو،

کسی کی بیجا شکایت نہ لکھو، لوگوں میں فساد نہ ڈالو،

کسی کی بیجا شکایت نہ لکھو، لوگوں میں فساد نہ ڈالو،
کسی کی بیجا شکایت نہ لکھو، لوگوں میں فساد نہ ڈالو،

شکایت : - علوم، - تاریخ، - آبیاری، - ایجاد، - بیجا، - غالب، - کثرت، - نقصان، - فراموش،
شکایت : - علوم، - تاریخ، - آبیاری، - ایجاد، - بیجا، - غالب، - کثرت، - نقصان، - فراموش،

ماں باپ کو ایسے خط نہ لکھو جس سے ان کو رنج ہو۔

ماں باپ کو ایسے خط نہ لکھو جس سے ان کو رنج ہو۔
 ماں باپ کو ایسے خط نہ لکھو جس سے ان کو رنج ہو۔
 پیتاماتاکے এমন چٹھی لیکھے نا یار فله تادهر کھٹ ہر۔

۳۔ جب کسی پر غصہ آجائے تو فوراً ناراضگی کا خط نہ لکھنے لگ جاو،

۱. جب کہیں پر گوسسا آجائے تو فاوران ناراضگی کا خط نہ لکھنے لگ جاو۔
 (۲) یکن کارو اُپر راج ہر، تبه تہنگناہ اسسٹٹیر چٹھی پتر لیکھیو نا۔

بلکہ ذرا تا ممل کرو، تاکہ کوئی بیجا بات غصے میں نہ لکھی جائے۔

بلکہ ذرا تا ممل کرو، تاکہ کوئی بیجا بات غصے میں نہ لکھی جائے۔
 بلکہ ذرا تا ممل کرو، تاکہ کوئی بیجا بات غصے میں نہ لکھی جائے۔
 بلکہ ذرا تا ممل کرو، تاکہ کوئی بیجا بات غصے میں نہ لکھی جائے۔

یایوں کرو کہ خط لکھ کر رکھ لو اور چند روز کے بعد دوبارہ غور کر کے

یایوں کرو کہ خط لکھ کر رکھ لو اور چند روز کے بعد دوبارہ غور کر کے
 یایوں کرو کہ خط لکھ کر رکھ لو اور چند روز کے بعد دوبارہ غور کر کے
 یایوں کرو کہ خط لکھ کر رکھ لو اور چند روز کے بعد دوبارہ غور کر کے

اگر مناسب سمجھو تو بھیج دو۔ کیونکہ اکثر جھگڑے خود بخود کچھ عرصے

اگر مناسب سمجھو تو بھیج دو۔ کیونکہ اکثر جھگڑے خود بخود کچھ عرصے
 اگر مناسب سمجھو تو بھیج دو۔ کیونکہ اکثر جھگڑے خود بخود کچھ عرصے
 اگر مناسب سمجھو تو بھیج دو۔ کیونکہ اکثر جھگڑے خود بخود کچھ عرصے

کے بعد مٹ جایا کرتے ہیں۔ اسلئے معمولی باتوں پر دوسروں کو

کے بعد مٹ جایا کرتے ہیں۔ اسلئے معمولی باتوں پر دوسروں کو
 کے بعد مٹ جایا کرتے ہیں۔ اسلئے معمولی باتوں پر دوسروں کو
 کے بعد مٹ جایا کرتے ہیں۔ اسلئے معمولی باتوں پر دوسروں کو

متاثر کرنا مصلحت کے خلاف ہے۔ جب کسی کو خط لکھو تو پتہ

متاثر کرنا مصلحت کے خلاف ہے۔ جب کسی کو خط لکھو تو پتہ
 متاثر کرنا مصلحت کے خلاف ہے۔ جب کسی کو خط لکھو تو پتہ
 متاثر کرنا مصلحت کے خلاف ہے۔ جب کسی کو خط لکھو تو پتہ

شکارت : فقہاء صابین - فکاهایه ساہبائین، بیروی - انوساری، کنیت - اُپنام، منظور - مرئی،
 ایضا، تجارت - بربسای، چنانچہ - یمن۔

صاف اور خوش خط تحریر کرو اور خاتمے پر اپنے نام کے ساتھ

সাফ আওর খোশ খত তাহরীর কারো আওর খাতেমে পর আপনে নাম কে সাথ
পরিস্কার এবং সুন্দর হস্তাক্ষরে লিখ এবং সর্বশেষে নিজ নামের সাথে

اپنا پتہ بھی لکھ دو۔ تاکہ اسے خط بھیجنے میں آسانی ہو۔

আপনা পাত্তা ভি লেখ দু'। তাকে উছে খত ভিজনে মে আসানী হু।

নিজের ঠিকানাটিও লিখে দাও। এতে চিঠি প্রেরণে সুবিধা হয়।

۴۔ لکھتے وقت اس بات کا خیال رکھو کہ کس حرف کو کہاں سے

8. লেখতে ওয়াক্ত ইস বাত কা খিয়াল রাকখো কে কিছ হরফ কু কাহা ছে
(8) লিখার সময় এ বিষয়টির উপর লক্ষ্য রাখ যে, কোন অক্ষর কোথা থেকে

موٹا لکھنا ہے اور کہاں سے پتلا۔ اور کس جگہ سے سیدھا لکھنا ہے اور

মুটা লেখনা হে আওর কাহা ছে পাতলা। আওর কিছ জাগা ছে সিদহা লেকনা হে আওর
মোটা লিখতে হবে এবং কোথা থেকে চিকন এবং কোন স্থান থেকে সোজা আর

کس جگہ سے ٹیڑھا۔ شروع شروع میں کسی خوش نویس استاد

কিছ জাগা ছে টেটহা, শুরু শুরু মে কেছি খোশ নাবীস উস্তাদ

কোন স্থান থেকে বাঁকা। শুরু থেকেই কোন সুলেখক শিক্ষকের

سے اصلاح لے لیا کرو۔ جب تمہارے لکھے ہوئے الفاظ چھپے

ছে ইসলাহ লে লিয়া কারো। জব তুমহারে লিখে হয়ে আলফায় ছাপে
মাধ্যমে সংশোধন করে নাও যখন তোমার লিখিত শব্দাবলী ছাপানো

ہوئے الفاظ کے مشابہ ہو جائیں تو پھر اصلاح کی ضرورت نہیں۔

হয়ে আলফায় কে মুশাবা হু জায়ি তু ফের ইসলাহ কী জরুরত নেহী।

শব্দাবলীর অনুরূপ হয়ে যায়, তখন আর সংশোধনের প্রয়োজন নেই।

۵۔ لکھتے وقت کپڑوں اور کاغذ کو سیاہی کی چھینٹوں سے بچاؤ۔

۵. لکھتے وقت کپڑوں اور کاغذ کو سیاہی کی چھینٹوں سے بچاؤ۔

(۵) لکھنے کے وقت کپڑوں اور کاغذ کو سیاہی کی چھینٹوں سے بچاؤ۔

اگر چھینٹا پڑ جائے تو فوراً دھو ڈالو۔ کپڑوں سے قلم نہ

آگے سے قلم نہ لکھو۔ کپڑوں سے قلم نہ لکھو۔ کپڑوں سے قلم نہ لکھو۔

پونچھو، کاغذ پر داغ نہ ڈالو۔ کوئی حرف غلط ہو جائے

پونچھو، کاغذ پر داغ نہ ڈالو۔ کوئی حرف غلط ہو جائے

تو اس کو مٹاؤ نہیں، بلکہ اس پر زاری لکیر کھینچ دو

تو اس کو مٹاؤ نہیں، بلکہ اس پر زاری لکیر کھینچ دو

اور آگے صحیح کر کے لکھ لو۔ اپنی انگلیوں کو سیاہی سے

اور آگے صحیح کر کے لکھ لو۔ اپنی انگلیوں کو سیاہی سے

آلودہ نہ ہونے دو۔ کتاب کے حاشیوں اور ورقوں پر

آلودہ نہ ہونے دو۔ کتاب کے حاشیوں اور ورقوں پر

کچھ نہ لکھو۔ لکھے ہوئے کا جہاں تک ہو سکے ادب کرو۔

کچھ نہ لکھو۔ لکھے ہوئے کا جہاں تک ہو سکے ادب کرو۔

کچھ نہ لکھو۔ لکھے ہوئے کا جہاں تک ہو سکے ادب کرو۔

(۳) عبادت کے آداب

عبادت کے آداب

عبادت کے آداب

۱۔ نیت ہمیشہ نیک رکھو، خود عبادت کے طریقے سیکھو،

۱. نیات ہامشا ناک راکھو، خواد عبادت کف ترفف کف سفاکو،

(۱) نیات سرفدا سق راکھ | نفا کف عبادتف نفا سفا کف

اپنے بھائی بہنوں اور خویش واقارب کو سکھاؤ۔ جو عبادت کرو

آپانف بائف بفنؤ آاؤر خفش آ آاکارفب کو سفاکو | جو عبادت کافرو
نفا بائف-بون افب آاقرفف-سوافنکفؤ سفا کاف داؤ | فف عبادات کف

اس پر ہمیشگی اختیار کرو۔ خدا اور رسول کے حکم کے بغیر عبادت میں

فس ٲر هافمشفگف افختفارف کافرو، خواد آاؤر راسؤل کف لکوم کف بگافر عبادت مف
تار اٲر نفا مانؤبرفتا ابلمن کف | آلاھ افب تار راسؤلفر نرفدش باتفف عبادتف

غلونہ کرو، بلکہ میانہ روی اختیار کرو۔ جب تھک جاؤ تو عبادت

ؤلؤ نا کافرو، بلکف مفا نا روافف افختفارف کافرو | جب خک جاؤ تو عبادت
سفا ترففقتا کف نا | برف مڈام ٲننا ابلمن کف | فخن کلانت هفف فاؤ تخن عبادت

چھوڑ دو افراط اور تفريط سے بچتے رہو۔ بعض لوگ نفل بالکل

لؤؤ دو افراف آاؤر تافرفف هف باحتف رافو | با'ف لؤگ نفل بفلکل
بک راکھ | اترففقتا اؤ اتافلننا بئف خاک | کون کون باتفف نفل ناماف

نہیں پڑھتے، اور بعض اس قدر پڑھتے ہیں کہ گھر بار اور

نفف ٲڑتف | آاؤر با'ف فس کدر ٲڑتف هف کف فر بار آاؤر

مؤٹف ف ٲڑف نا | آار کفؤ کفؤ اف بفش ٲڑف فف، باؤف-فر،

شدارف : رفف - افرفف - اتراف - گربکرا، سفداف - ٲرفمک |

اہل و عیال کو بھی بھول جاتے ہیں، مگر ایسا کرنا مناسب نہیں۔

آہل و آجال کو بھی بھول جاتے ہں۔ مگر ایسا کرنا مناسب نہیں ہے۔
 آہل و آجال کو بھی بھول جاتے ہں۔ مگر ایسا کرنا مناسب نہیں ہے۔
 آہل و آجال کو بھی بھول جاتے ہں۔ مگر ایسا کرنا مناسب نہیں ہے۔

انسان پر خدا تعالیٰ کا بھی حق ہے، اپنے نفس کا حق بھی ہے اور باقی

انسان پر خدا تعالیٰ کا بھی حق ہے، اپنے نفس کا حق بھی ہے اور باقی
 انسان پر خدا تعالیٰ کا بھی حق ہے، اپنے نفس کا حق بھی ہے اور باقی
 انسان پر خدا تعالیٰ کا بھی حق ہے، اپنے نفس کا حق بھی ہے اور باقی

مخلوق کا حق بھی ہے۔ سب کو ٹھیک طور پر پورا کرنا انسان کا فرض ہے

مخلوق کا حق بھی ہے۔ سب کو ٹھیک طور پر پورا کرنا انسان کا فرض ہے
 مخلوق کا حق بھی ہے۔ سب کو ٹھیک طور پر پورا کرنا انسان کا فرض ہے
 مخلوق کا حق بھی ہے۔ سب کو ٹھیک طور پر پورا کرنا انسان کا فرض ہے

۲۔ پیشاب اور پاخانہ وغیرہ حوائج ضروریہ سے فارغ ہو کر

۲۔ پیشاب اور پاخانہ وغیرہ حوائج ضروریہ سے فارغ ہو کر
 ۲۔ پیشاب اور پاخانہ وغیرہ حوائج ضروریہ سے فارغ ہو کر
 ۲۔ پیشاب اور پاخانہ وغیرہ حوائج ضروریہ سے فارغ ہو کر

عبادت کرو، وضو اچھی طرح کرو۔ تازہ وضو کا ثواب زیادہ ہے۔

عبادت کرو، وضو اچھی طرح کرو۔ تازہ وضو کا ثواب زیادہ ہے۔
 عبادت کرو، وضو اچھی طرح کرو۔ تازہ وضو کا ثواب زیادہ ہے۔
 عبادت کرو، وضو اچھی طرح کرو۔ تازہ وضو کا ثواب زیادہ ہے۔

پیشاب کی چھینٹوں سے بچو، کسی سوراخ میں پیشاب نہ کرو،

پیشاب کی چھینٹوں سے بچو، کسی سوراخ میں پیشاب نہ کرو،
 پیشاب کی چھینٹوں سے بچو، کسی سوراخ میں پیشاب نہ کرو،
 پیشاب کی چھینٹوں سے بچو، کسی سوراخ میں پیشاب نہ کرو،

پیشاب کی چھینٹوں سے بچو، کسی سوراخ میں پیشاب نہ کرو،
 پیشاب کی چھینٹوں سے بچو، کسی سوراخ میں پیشاب نہ کرو،
 پیشاب کی چھینٹوں سے بچو، کسی سوراخ میں پیشاب نہ کرو،

پاخانہ اور پیشاب کے وقت باتیں نہ کرو، جو پانی دھوپ سے گرم

پاخانہ اور پیشاب کے وقت باتیں نہ کرو، جو پانی دھوپ سے گرم
 پاخانہ اور پیشاب کے وقت باتیں نہ کرو، جو پانی دھوپ سے گرم
 پاخانہ اور پیشاب کے وقت باتیں نہ کرو، جو پانی دھوپ سے گرم

ہو جائے اُسے مت برتو۔ اس سے برص کی بیماری کا اندیشہ ہے،

ہجائے اٹھے مت بر تاو | اس سے برص کی بیماری کا اندیشہ ہے |
ہرے یار اٹھا بربھار کرے نا | اےتے کوسٹ رورگ ہورار سببانا آھے |

جس سے بدن پر سفید داغ ہو جاتے ہیں۔

جس ھے بدن پر سفید داغ ھ جاتے ھے |
یار فله شریئر اوبر سادا داغ پڈے یار |

۳۔ نماز اول وقت پر پڑھو، دیر سے پڑھنا برا ہے۔ نماز ثواب کے لئے

۳. ناماے آوےال وےاکت پر پڈھ | دےر ھے پڈھنا بورا ھے | ناماے آوےابکے لیرے
(۳) سور وےاکےہ ناماے پڈ | بیلھے پڈا آراپ | ناماے سوےاےبر جنے

پڑھتے ہیں بے توجہی سے پڑھنا گناہ ہے۔ لہذا جی لگا کر نماز پڑھو،

پڈھتے ھے بے تاکوےا جڑھے پڈھنا گناہ ھے | لےھاےا جی لاکاےر ناماے پڈھ
پڈا ہر | اমনوےوےگتیر سائے پڈلے گوناہ ہر | سوترانے منوےوےوے سھکارے ناماے پڈ |

رکوع و سجود اچھی طرح بجا لاؤ، ادھر ادھر نہ دیکھو۔

رکوع ا ھجود آاھے تاراه باجا لاو | ایدار ایدار نا دےآکو |
رکوع اےبے سجدا اوتمررے آادای کر | ایدک سیدک دےآو نا |

جہاں تک ہو سکے جمائی کور کو۔ جو کچھ نماز میں پڑھو اس پر غور کرو۔

جاہا تک ھسےکے جمائے کور کو-جو کچھ ناماے مے پڈھ اس پر گور کارو |
ےتدیر سبب ہائے تولا آھے بربت آاک | یا کچھ ناماےر مڈھے پڈھ،

اگر مسجد سے باہر نماز پڑھو تو لکڑی وغیرہ کوئی اڑا آگے رکھ لو۔

آگار مسجد ھے باہر ناماے پڈھ تو لاکڈی وےاگاہراہ کوی آاڈ آاگے راکآلو |
تار آتہ آان راک | ےدی مسجدےر باہرے ناماے پڈ، تبے کارٹ اےتےادے کون آاڈ سائے رےآے داو |

فرض پڑھ کر بہتر ہے کہ سنت و نفل اس جگہ سے قدرے ہٹ

فرض پڑھ کر بہتر ہے کہ سنت و نفل اس جگہ سے قدرے ہٹ
فرض پڑھ کر بہتر ہے کہ سنت و نفل اس جگہ سے قدرے ہٹ

کر پڑھو۔ نفل اور وظیفے اتنے شروع کرو جو نبھاسکو۔

کار پڑھو۔ نفل اور وظیفے اتنے شروع کرو جو نبھاسکو۔
کار پڑھو۔ نفل اور وظیفے اتنے شروع کرو جو نبھاسکو۔

۴۔ روزے میں بے ہودہ باتیں مت کرو، لڑائی جھگڑے سے پرہیز کرو،

۴۔ روزے میں بے ہودہ باتیں مت کرو، لڑائی جھگڑے سے پرہیز کرو،
۴۔ روزے میں بے ہودہ باتیں مت کرو، لڑائی جھگڑے سے پرہیز کرو،

غیبت اور چغلی سے بچو۔ رمضان شریف کے آخری دس دن زیادہ عبادت کرو۔

غیبت اور چغلی سے بچو۔ رمضان شریف کے آخری دس دن زیادہ عبادت کرو۔
غیبت اور چغلی سے بچو۔ رمضان شریف کے آخری دس دن زیادہ عبادت کرو۔

زکوٰۃ حتی الوسع ان مستحق لوگوں کو دو جو شرم و حیا کی وجہ سے

زکوٰۃ حتی الوسع ان مستحق لوگوں کو دو جو شرم و حیا کی وجہ سے
زکوٰۃ حتی الوسع ان مستحق لوگوں کو دو جو شرم و حیا کی وجہ سے

مانگ نہیں سکتے۔ خیرات میں تھوڑی چیز دینے سے مت شرمناؤ،

مانگ نہیں سکتے۔ خیرات میں تھوڑی چیز دینے سے مت شرمناؤ،
مانگ نہیں سکتے۔ خیرات میں تھوڑی چیز دینے سے مت شرمناؤ،

جو توفیق ہو دیدو۔ یوں نہ سمجھو کہ زکوٰۃ کے بعد خیرات دینا

جو توفیق ہو دیدو۔ یوں نہ سمجھو کہ زکوٰۃ کے بعد خیرات دینا
جو توفیق ہو دیدو۔ یوں نہ سمجھو کہ زکوٰۃ کے بعد خیرات دینا

ضروری نہیں، بلکہ ضرورت کے وقت ہمت کے موافق خیر

ضروری نہیں۔ بلکہ ضرورت کے وقت ہمت کے موافق خیر
 ضروری نہیں۔ بلکہ ضرورت کے وقت ہمت کے موافق خیر
 ضروری نہیں۔ بلکہ ضرورت کے وقت ہمت کے موافق خیر

وخیرات کرو، اپنے رشتے داروں کو دینے سے دہرا ثواب ملتا ہے

اے خیرات کرو، اپنے رشتے داروں کو دینے سے دہرا ثواب ملتا ہے
 اے خیرات کرو، اپنے رشتے داروں کو دینے سے دہرا ثواب ملتا ہے
 اے خیرات کرو، اپنے رشتے داروں کو دینے سے دہرا ثواب ملتا ہے

پڑوسیوں کا خیال رکھو۔ اگر تم تندرست، آزاد، مالدار ہو اور

پڑوسیوں کا خیال رکھو۔ اگر تم تندرست، آزاد، مالدار ہو اور
 پڑوسیوں کا خیال رکھو۔ اگر تم تندرست، آزاد، مالدار ہو اور
 پڑوسیوں کا خیال رکھو۔ اگر تم تندرست، آزاد، مالدار ہو اور

راستہ پُر امن ہو تو عمر میں ایک دفعہ حج بھی کرو۔

راستہ پُر امن ہو تو عمر میں ایک دفعہ حج بھی کرو۔
 راستہ پُر امن ہو تو عمر میں ایک دفعہ حج بھی کرو۔
 راستہ پُر امن ہو تو عمر میں ایک دفعہ حج بھی کرو۔

پہلے مکہ معظمہ جاؤ پھر مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کی

پہلے مکہ معظمہ جاؤ پھر مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کی
 پہلے مکہ معظمہ جاؤ پھر مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کی
 پہلے مکہ معظمہ جاؤ پھر مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کی

اور روضہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرو۔

اور روضہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرو۔
 اور روضہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرو۔
 اور روضہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرو۔

۵۔ قرآن مجید کو پڑھ کر مت بھلاؤ بلکہ ہمیشہ پڑھتے رہو،

۵۔ قرآن مجید کو پڑھ کر مت بھلاؤ بلکہ ہمیشہ پڑھتے رہو،
 ۵۔ قرآن مجید کو پڑھ کر مت بھلاؤ بلکہ ہمیشہ پڑھتے رہو،
 ۵۔ قرآن مجید کو پڑھ کر مت بھلاؤ بلکہ ہمیشہ پڑھتے رہو،

ورنہ گناہ ہوگا۔ قرآن مجید جی لگا کر اور خدا سے ڈر کر پڑھا کرو۔

ওয়ার نا گناہ ہوگا۔ کورآن مجید جی لگا کر آؤر خؤدا خے ڈر کار پڑھا کارؤا۔
انڈاا گؤناہ ہبے۔ کورآن مجید مئؤاؤؤؤ سہکارے اباؤ آلااھکے ڈؤ کرے پڑ۔

حتى الوسع صحیح مگر آہستہ پڑھو اور اس بات کا خیال رکھو کہ خدا تعالیٰ

ہاڈال وؤاسا' سہیہ مگر آہسؤا پڑھ آؤر ائس باؤ کا ڈیال راکھؤ کے خؤدا اا'الا
ڈاؤؤؤ سڈب بشؤڈڈااے ااے آاسؤے پاؤ کر ا کڈار خےال راکھ ے، آلااھ اا'الا

سُن رہا ہے۔ دعا خوب شوق سے کرو، مگر ناجائز چیز کے

سؤن راکھا ہے۔ ڈؤا خوب شؤک خے کارؤا۔ مگر ناآاےڈ ڈاؤ کے
سؤنؤےخےن۔ ڈؤا خوب آاڈہر سؤے کر، ااے ناآاےڈ کؤن کبھؤر آؤن ڈؤا

لئے نہ کرو۔ اگر کام ہونے میں دیر ہو جائے تو تنگ آ کر

لئے نا کارؤا۔ آااار کام ہؤنے مے ڈر ہ ڈاےؤ اؤ اؤنؤ آااار
کارؤا نا۔ ڈاڈ آاشا پؤر ہؤے ڈرے ڈاے، ااے اؤاؤڈ ہؤے

دُعا کرنا نہ چھوڑو۔ بلکہ اس کی قبولیت کا یقین رکھو۔

ڈؤا کارنا نا ڈھؤا، اااے ائس کبؤلئاؤ کا ائاکئن راکھؤ۔
ڈؤا کارا خےڈے ڈاؤ نا۔ اارؤ اہا کبؤل ہؤار بشواس راکھ۔ ائؤاؤاار اےش

استغفار بہت کیا کرو۔ اس سے مشکل آسان اور روزی میں

اؤسؤاؤاار اہؤ کئا کارؤا۔ ائس سے مؤشکئل آسان آؤر رؤی مے
اےش کر اہا ڈارا مؤشکئل آسان ہؤے ڈاے اباؤ رئڈکے

برکت ہوگی۔ اگر کوئی گناہ ہو جائے تو جلدی توبہ کرو۔

اارکؤ ہؤا۔ آااار کؤئ گؤناہ ہؤاےؤ اؤلڈئ اؤا کارؤا۔
اارکؤ ہؤے ڈاے۔ ڈاڈ کؤن گؤناہ ہؤے ڈاے ااے شئڈھئ اؤاا کر۔

ہامدرءف ہمردف سمبہءنا

ٹہنئ ٲہ کسئ شجر کف تہا + بلبف تہا کوئف اءاس بئٹھا۔

ٹہنئ ٲہ کف شجار کف تنہا + بولبول تھا کوفف ۛءاس بئٹا ۔

کون گاہر ڈالہ اءاکئ + کون اء بولبول بسہئفل بفسنن منہ

کہتا تھا کف رات سر ٲہ آئف + اُرنہ چکنہ مئفن دن گزارا۔

کاہتا تھا کف رات سار ٲہ آئف + ۛءنہ چگنہ مہ ءفن گوئارا

بولل، رات ماٹار ۛٲر اءل + ۛءہ بہءانہ، آءاف ٹوکانہتہ ءفن کفٹہ گهل ۔

ٲہنچوں کس طرح آشئان تک + ہر چئز ٲہ چھا گئاف انءہئرا۔

ٲاھئ کفھ تاراه آشئئا تک + ہار ٹئج ٲہ آا گئاف انءہئرا

کفمنہ ٲئٹا بلسا ٲرفنٹ + سکل جنفسہر ۛٲر آہئہ گہئہ انککار ۔

سُن کر بلبف کف آھوزارف + جگنو کوئف ٲاس ہئ سہ بولا

سُنکار بولبول کف آھ و ئارف + آا گنو کوفف ٲاھ ہئ آہ بولا

شونہ بولبولہر اء بلفاٲ + کون اء آوناکئ ٲاشر ہتہ ءکہ بولل،

آاضر ہوں مء ءو جان وءل سہ + کئٹرا ہوں اگر چہ مئفن ذر اسا

آافئر آ مءء کو آان و ءلف آہ + کفءا آ آاگار آہ مائ ئرا آا

آاآئر آ ب ساهاف آرئتہ آان و ٲراڻ ءئفہ + آءف و آامئ سامانئ ٲوکا ۔

کئفم ہہ آورات ہہ انءہئرف + مئفن راہ مئفن روشنئ کر ونگا

کئفا گم آہ آو راتہہ انءہئرف + مائ راہ مہ رشاٲئ کارہ گا

کف آئٹار آآہہ راترف انککار تاتہ + آامئ راسئا ئ آالہ ءان کر ب ۔

اللہ نہ ءئ ہہ مآھ کو مشعل + چکا کف مآھ ءئاف بنائاف

آالئاف نہ ءئ ہہ مورا کہ ماشآال + آمکاکہ مورا ءئاف بانا ئا ۔

آالئاف آاماکہ ءان کرہئفن باتئ + آاماکہ آکمکئفہ تئفن بانئفہئفن باتئ ۔

ہئں لوگ وہئ جہاں مئفن اٲئہ + آتہ ہئں آو کام ءوسروں کف۔

آہ لوگ وئہ آاھ مائ آآہہ + آاتہ آہ آو کام ءوھرککہ

آهلن اء سکل مانوئ آا گتہ ۛقنم + انئہر ۛٲکارہ اءسہ آاکہ ئارا ۔

شءارث : ٹہنئ - ءالا، شاآا ۔ شجر - برف ۔ اءاس - ۛءاس، آئٹئٹ ۔ آشئانہ - آوآال، آر ۔ ءئاف - باتئ ۔

آھوزارف - کاناکاٹئ کرر ۔ جگنو - اءکٹئ بئ بئ ٲوکا ئار ٲئآنہ آالہ آولہ ۔ مشعل - مومباتئ، مशल ۔

ہم حیوانات سے کیا سیکھتے ہیں؟

ہام ہایووانات ھے کیا سیکھتے ھے؟
آمرا پراणीدەر تھے کی سیکھتے؟

ایک جماعت کے دو طالب علم نے استاد کو یہ کہتے ہوئے
اک جماعت کے دو تالےبے علم نے استاد کو ایسے کہتے ھے
اک کلاسےر دو ای ھاڑ سیکھکے ای کھا بلتے سنےھے ھے،

سنا کہ انسان حیوانات سے بہت کچھ سیکھ سکتا ہے۔

سونا کہ انسان ہایووانات ھے بھت کھ سیکھ سکتا ھے۔
مانوس پراणीدەر تھےو انےک کیکھ سیکھتے پارے۔

استاد کی یہ تقریر ان کے دل میں گھر کر گئی۔ اب یہ دونوں جانوروں
استاد کی ایسے تکریر انکے دل مے کار گای۔ آب ایسے دنو جانووار
سیکھکےر ای پراणी تادےر اگورے بےسے گےل۔ انھن تارا دو جن پراणीدەر

پر خوب غور سے نظر ڈالنے لگے، تاکہ ان سے کچھ سیکھ سکیں۔

پر خوب گور ھے نھر ڈالنے لآگے۔ تاکے انھے کھ سیکھ سکی۔
اوپر خوب منوایوگ سھکارے دھٹی فےلتے لآگل یاتے اےدےر تھے سیکھا گھن کرےتے پارے۔

چنانچہ ایک دن ان دونوں کی نگاہیں ایک چیونٹی پر پڑیں

آناآے اکدین ان دنو کی نگاہی اک آیوٹی پر پڈی
اتےب، اکدین ای دو جنےر دھٹی یخن اکٹی پیپیلیکار اوپر پڈل،

تو ٹھہر کر اسے غور سے دیکھتے رہے۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ صرف

تے آےہےر کار اھے گور ھے دیکھتے رآھے۔ انھ نے دیکھا کہ اوھ سیریف
تخن داڈیے پیپیلیکارٹیکے گبیرتآبے دیکھتے لآگل۔ تارا گبیرتآبے دیکھل

شکارث : رہبر - پتھپردارک، مشعل - پدیپ، جگگاوگی - آلوکیت کرر، نمونہ - آدراش،
آختی - کٹورتا، مومنہ - آماندار مھلا۔

سے اڑ کر دوسرے پھول پر بیٹھتی ہیں اور سب سے رس چوس چوس

ہے۔ وہ ڈھکے کے دو طرف سے رس چوستی ہے اور سب سے رس چوس چوس
 ہے۔ وہ ڈھکے کے دو طرف سے رس چوستی ہے اور سب سے رس چوس چوس
 ہے۔ وہ ڈھکے کے دو طرف سے رس چوستی ہے اور سب سے رس چوس چوس

کراپنے چھتے کی طرف چلی جاتی ہیں۔ ان کے چھتے میں گھسنے

کار آپنے چھتے کی طرف چلی جاتی ہیں۔ ان کے چھتے میں گھسنے
 کار آپنے چھتے کی طرف چلی جاتی ہیں۔ ان کے چھتے میں گھسنے
 کار آپنے چھتے کی طرف چلی جاتی ہیں۔ ان کے چھتے میں گھسنے

اور اس سے نکلنے کا منظر بھی عجیب ہے۔ بہت جلد جلد گھستی اور

اور اس سے نکلنے کا منظر بھی عجیب ہے۔ بہت جلد جلد گھستی اور
 اور اس سے نکلنے کا منظر بھی عجیب ہے۔ بہت جلد جلد گھستی اور
 اور اس سے نکلنے کا منظر بھی عجیب ہے۔ بہت جلد جلد گھستی اور

نکلتی ہیں، پھر بھی ایک مکھی دوسری مکھی سے بالکل نہیں ٹکراتی۔

نکلتی ہیں، پھر بھی ایک مکھی دوسری مکھی سے بالکل نہیں ٹکراتی۔
 نکلتی ہیں، پھر بھی ایک مکھی دوسری مکھی سے بالکل نہیں ٹکراتی۔
 نکلتی ہیں، پھر بھی ایک مکھی دوسری مکھی سے بالکل نہیں ٹکراتی۔

یہ دیکھ کر دونوں نے کہا کہ ہم شہد کی مکھیوں سے عمل اور نظم

یہ دیکھ کر دونوں نے کہا کہ ہم شہد کی مکھیوں سے عمل اور نظم
 یہ دیکھ کر دونوں نے کہا کہ ہم شہد کی مکھیوں سے عمل اور نظم
 یہ دیکھ کر دونوں نے کہا کہ ہم شہد کی مکھیوں سے عمل اور نظم

(ڈسپلین) کا درس لے سکتے ہیں۔ ان دونوں کے قریب ہی گھر میں

(ڈسپلین) کا درس لے سکتے ہیں۔ ان دونوں کے قریب ہی گھر میں
 (ڈسپلین) کا درس لے سکتے ہیں۔ ان دونوں کے قریب ہی گھر میں
 (ڈسپلین) کا درس لے سکتے ہیں۔ ان دونوں کے قریب ہی گھر میں

بہت سی مرغیاں تھیں، جن کے بیچ میں ایک بڑی دم والا

بہت سی مرغیاں تھیں، جن کے بیچ میں ایک بڑی دم والا
 بہت سی مرغیاں تھیں، جن کے بیچ میں ایک بڑی دم والا
 بہت سی مرغیاں تھیں، جن کے بیچ میں ایک بڑی دم والا

کمزوری ضعف - ساراংশ - اتفاق - ঘটناक्रमہ - حاصل - کاٹا یوکت ڈال گولہ، خاردار شاخیں : شکرارث :
 کمزوری ضعف - ساراংশ - اتفاق - ঘটناक्रमہ - حاصل - کاٹا یوکت ڈال گولہ، خاردار شاخیں : شکرارث :
 کمزوری ضعف - ساراংশ - اتفاق - ঘটناक्रमہ - حاصل - کاٹا یوکت ڈال گولہ، خاردار شاخیں : شکرارث :

سفید مرغا تھا۔ جس کے سر پر سرخ رنگ کی کلغی ایسی بھلی

سفید مورگا تھا۔ جس کے سر پر سرخ رنگ کی کلغی ایسی بھلی
سادا مورگہ ہل۔ یار ماٹار اٲر لال رنر اکرٹ بول امان سندر

دیکھائی دے رہی تھی کہ جیسے اس کے سر پر شاہی تاج ہو۔

دکھا یی دے راہی تی کے رے اے اے اس کے سر پر شاہی تاج ہ۔
دکھا یا اے یان تار ماٹار اٲر شاہی ماکوٹ رے اے۔

یہ دونوں ان کی طرف بھی غور سے نظر ڈالتے رہے۔

ایے دن اٲنکی تراف بی رور اے نر دال تے راہے۔
اے د'رن مورگٹر اٲر مناوے ر ساکارے تاکا تے لار ل۔

دیکھا کہ مرغا جب کبھی کسی طرح کا دانہ دُنکا پاتا ہے

دکھا کے مورگا رر کبھی کبھی تاراه کا دانا دنکا پا تا ہے
تارا دکھل یے مورگہ یان کون اٲکارے دانا ر ٹوکارا پار

تو گٹ گٹ کر کے تمام مرغیوں کو اپنے گرد جمع کر لیتا ہے۔

تو کوٹ کوٹ کارکے تامام مورگی اٲن کو اٲننے رر د رما کار لیا تے۔
تان کوٹ کوٹ کرے ساکل مورگی رلکے نر رے ااشے پارے رما کرے نرے۔

گویا وہ یوں پکارتا ہے :- اے مرغیوں کی جماعت!

روریا رر اٲ پوکار تا ہے۔ اار مورگی اٲن کی رما اات!
یان مورگٹر اٲا بے اا اان کرے ہے مورگی ر دل!

آؤ جلد آؤ، اور کھاؤ خوب کھاؤ۔ مرغیاں مرغی کی اس

اا رر لادیا اا اا اور اا اا اا۔ مورگی اٲن مورگے کی اے
اے! تا اا تا اا اے! اے اے اا! اا اا! مورگی اٲن مورگے اے

آواز پر دوڑتی ہوئی اڑتی ہوئی آتی ہیں اور دانے چکنے

آوایا پھر، دودھتی ہئی ۛر تہی آتہ ہہ آوہر دانہ چاگنہ
آوہراج شونہ دودھاتہ دودھاتہ ۛڈتہ ۛڈتہ آسہ اہہ دانا کۛڈاتہ

لگتی ہیں۔ اور مرغا ان سب کی طرف نظر دوڑاتا رہتا ہے۔

لاگتہ ہہ، آوہر مورگا ۛن سب کہ ترہف نہر دودھاتا راہتا ہہ
ٹاکہ۔ آہر مورگتہ تادہر سکلہر دیکہ تاکاتہ ٹاکہ۔

جوں ہی کوئی شکاری پرندہ آسمان پر اڑتا ہوا نظر آیا کوئی

جۛ ہہ کۛی شکاری ہرندہ آسمان ہر ۛڈتا ہۛا نہر آہا ہۛا کۛی
ہنہنہ کون شکاری ہاٹہ آکاشہ ۛڈتۛ اہہنہا نہرہ آسہ اٹہا کون

کتا صحن میں آہڑا یا کسی پلے کی میاؤں کی آواز کان میں پڑی

کۛٹا سہن مہ آپڈا ہۛا کہہہ ہللی کہ میاۛ کہ آوہای کان مہ ہڈہ
کۛکۛر ۛٹانہ چلہ آسہ اٹہا کون ہڈالہر مہو آوہراج کانہ آسہ تہن

وہ چونک کر اپنی ایک خاص آواز سے مرغیوں کو تنبیہ کر دیتا ہے۔

وہ چۛ کار آپنہ اک ٹاس آوہای ہہ مورگہ ۛ کۛ تامہہہ کار دہتا ہہ
سہ چۛ کار نہرہر اک ہشہہ آوہراج دہرا مورگہگۛلہکہ ساترک کار دہر

اے مرغیو! ہوشیار رہو۔ یہ دیکھ کر دونوں نے کہا کہ ہم اس

آہ مورگہ ۛ ہشہار راہ۔ ہۛہ دہکٹ کار دنۛ نہ کاہا کہ ہام ہس
ہہ مورگہر دل! ساترک ٹاک۔ اہ دہٹہ تار دۛجن ہلل، آمرا اہ

مرغے سے ایثار نفس اور چوکنے رہنے کی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔

مورگہ ہہ ہٹارہ نہفس آوہر چوکانہ راہنہ کہ تالہم ہاسل کار سہکاتہ ہہ
مورگ ٹہکہ ہٹارہ (اٹھاٲ اہرکہ نہرہر ۛہر ہراہانہ دان) اہہ ساترک ٹاکار شہفا لاہ کارتہ ہارہ۔

شہارٹہ : لڑکۛں - ہلہدہر، آٹہ - گوٹہ، آزماؤ - ہرہفا کار، کچکچا - داٹ کٹمٹ، سوت - سۛتا،
متفق - اکمات۔

قیدی پرندے کی فریاد

کیدی پرندے کی فریاد

بندی پاخیر کرررر آرررر

آتا ہے یاد مجھ کو گذرا ہوا زمانہ + وہ باغ کی بہاریں وہ سب کا چہچہانا

آتا ہے ایاد مورا کو گورا لیا یمانا + وہ باغ کی باہاری وہ سبکا چہچہانا
آتا ہے ایاد مورا کو گورا لیا یمانا + وہ باغ کی باہاری وہ سبکا چہچہانا

آزادیاں کہاں وہ اب اپنے گھونسلے کی + اپنی خوشی سے آنا اپنی خوشی سے جانا

آزادیاں کہاں وہ اب اپنے گھونسلے کی + اپنی خوشی سے آنا اپنی خوشی سے جانا
آزادیاں کہاں وہ اب اپنے گھونسلے کی + اپنی خوشی سے آنا اپنی خوشی سے جانا

لگتی ہے چوٹ دل پر آتا ہے یاد جس دم + شبنم کے آنسوؤں پر کلیوں کا مسکرانا

لگتی ہے چوٹ دل پر آتا ہے یاد جس دم + شبنم کے آنسوؤں پر کلیوں کا مسکرانا
لگتی ہے چوٹ دل پر آتا ہے یاد جس دم + شبنم کے آنسوؤں پر کلیوں کا مسکرانا

وہ پیاری پیاری صورت وہ کامنی سی مورت + آباد جس کے دم سے تھا میرا آشیانہ

وہ پیاری پیاری صورت وہ کامنی سی مورت + آباد جس کے دم سے تھا میرا آشیانہ
وہ پیاری پیاری صورت وہ کامنی سی مورت + آباد جس کے دم سے تھا میرا آشیانہ

آتی نہیں صدا میں اس کی مرے نفس میں + ہوتی مری رہائی اے کاش! میرے بس میں

آتی نہیں صدا میں اس کی مرے نفس میں + ہوتی مری رہائی اے کاش! میرے بس میں
آتی نہیں صدا میں اس کی مرے نفس میں + ہوتی مری رہائی اے کاش! میرے بس میں

کیا بد نصیب ہوں میں گھر کو ترس رہا ہوں + ساٹھی تو ہیں وطن میں، قید میں پڑا ہوں

کیا بد نصیب ہوں میں گھر کو ترس رہا ہوں + ساٹھی تو ہیں وطن میں، قید میں پڑا ہوں
کیا بد نصیب ہوں میں گھر کو ترس رہا ہوں + ساٹھی تو ہیں وطن میں، قید میں پڑا ہوں

آئی بہار، کلیاں پھولوں کی ہنس رہی ہیں + میں اس اندھیرے گھر میں قسمت کو رو رہا ہوں

آری باہار، کلیاں، فلو کی ہانس راہی ہے + مایہ ایس آندھیرے घर मे किसमत कु रो राहा हो
बसंत এসेछे, फुलेर कलिगुलि हासछे, + आमि ए अन्कार घरे भाग्येर क्रन्दन करछि ।

اس قید کا آہی! دکھڑا کسے سناؤں + ڈر ہے یہیں قفس میں، میں غم سے مرنے جاؤں

इस कयेद का ईलाही! दुखड़ा किसे सुनाओ + डर है इयेहि कूफस मे । माई गम छे मर ना जाओ
हे आल्हा! ए बन्दी जीबनेर दुग्थेर काहिनी काके शोनाव + भय हय ए खांचार मध्ये आमि दुग्थिन्ताय मरे ना याई ।

جب سے چمن چھٹا ہے یہ حال ہو گیا ہے + دل غم کو کھار ہا ہے غم دل کو کھار ہا ہے

जब छे चमन छेटा है इये हाल ह गिया है + दिल गम कु खा राहा है गम दिल को खा राहा है
यखन थेके बागिचा छेड़ेछि ए अबस्था हये गेछे ये, + अन्तर दुग्थिन्ताके खाछे, दुग्थिन्ता अन्तरके खाछे ।

گانا سے سمجھ کر خوش ہوں نہ سننے والے + دکھے ہوئے دلوں کی فریاد کی صدا ہے

गाना उसे समुख कार खुश ह ना सुनने ओयाले + दुक्थे हये दिलु कि फरईयाद कि सदा है
एटिके गान मने करे खुशी हयो ना + दुग्थित अन्तरे करुण आर्तनादेर आओयाज ।

آزاد مجھ کو کر دے او قید کرنے والے! + میں بے زبان ہوں قیدی تو چھوڑ کر دے

आयाद मुक्क को कारदे उ कयेद कारने ओयाले! + माई बे यवान ह कयदी तु छुड़ कार दु'आ ले ।
आमाके मुक्क करे दाओ, है बन्दी करनेओयाला । + आमि एक अबला बन्दी, आमाके छेड़े दिये दु'आ नाओ ।

(ڈاکٹر اقبال مرحوم)

(ڈاکٹر ایکبال مرہم)

ڈاکٹر ایکبال (مرہم)

فرا موش، جنان، علوم، إتیهاس، تاریخ، آرابكار، ایجاد، بیجائی، غالب، ক্ষতি، نقصان : شكارث
- جلیل القدر، سنخیا، تعداد، بول، - سممانیت،

چالیس سے حدیثیں

چالیس ہادیس

چالیس ہادیس

حدیث: ۱۔ کلمہ لا اِلهَ اِلاَّ اللہُ جنت کے قفل کی کنجی ہے۔

۱. ہادیس : کالیمائے لا اِلهَ اِلاَّ اللہُ جنت کے قفل کی کنجی ہے۔
 ہادیس ۱ : کالیمائے "لا-اِلهَ اِلاَّ اللہُ" بے ہمتی کے تالار کی ہے۔

لیکن ہر کنجی کے لئے دندانوں کا ہونا ضروری ہے۔ اگر کنجی میں

لے کین ہار کونجی کے لئے داندانوں کا ہونا ضروری ہے۔ آگاہ کونجی کے
 تہہ ہر کنجی کے لئے داندانوں کا ہونا ضروری ہے۔ آگاہ کونجی کے
 تہہ ہر کنجی کے لئے داندانوں کا ہونا ضروری ہے۔ آگاہ کونجی کے

دندانے نہ ہوں تو قفل نہیں کھل سکتا۔ اسی طرح اگر کلمہ توحید کے

داندانے نہ ہوں تو قفل نہیں کھل سکتا۔ اسی طرح اگر کلمہ توحید کے
 داندانے نہ ہوں تو قفل نہیں کھل سکتا۔ اسی طرح اگر کلمہ توحید کے
 داندانے نہ ہوں تو قفل نہیں کھل سکتا۔ اسی طرح اگر کلمہ توحید کے

ساتھ اعمال صالحہ نہ ہو تو جنت کا قفل بھی کھلنا مشکل ہے (بخاری)

ساتھ اعمال صالحہ نہ ہو تو جنت کا قفل بھی کھلنا مشکل ہے (بخاری)
 ساتھ اعمال صالحہ نہ ہو تو جنت کا قفل بھی کھلنا مشکل ہے (بخاری)
 ساتھ اعمال صالحہ نہ ہو تو جنت کا قفل بھی کھلنا مشکل ہے (بخاری)

حدیث: ۲۔ کسی نے نیکی کی نیت کی، لیکن اس کی نیکی کا وقوع نہیں ہوا

۲. ہادیس : کسی نے نیکی کی نیت کی، لیکن اس کی نیکی کا وقوع نہیں ہوا
 ہادیس ۲ : کسی نے نیکی کی نیت کی، لیکن اس کی نیکی کا وقوع نہیں ہوا
 ہادیس ۲ : کسی نے نیکی کی نیت کی، لیکن اس کی نیکی کا وقوع نہیں ہوا

تب بھی ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے (بخاری و مسلم)

تب بھی ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے (بخاری و مسلم)
 تب بھی ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے (بخاری و مسلم)
 تب بھی ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے (بخاری و مسلم)

تب بھی ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے (بخاری و مسلم)
 تب بھی ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے (بخاری و مسلم)
 تب بھی ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے (بخاری و مسلم)

حدیث: ۳- فساد امت کے زمانے میں میری سنت پر مضبوطی سے

৩. হাসীস : ফাসাদে উম্মত কে যমানে মে মেরী সুনাত পর মযবুতি ছে
হাদীস ৩ : উম্মতের কলহ-বিবাদের যমানায় আমার সুনাতের উপর দৃঢ়ভাবে

عمل کرنے والے کو ۱۰۰ اسوشہیدوں کا ثواب ملتا ہے (بیہقی)

আমল কারনে ওয়ালে কু ছু শহীদু কা ছওয়াব মিলতা হে। (বায়হাকী)
আমলকারীদের একশ শহীদের সওয়াব মিলবে। (বায়হাকী)

یعنی ایسے زمانے میں جب کہ لوگ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بے پروائی

ইয়া'নী এইছে যমানে মে জব কে লোগ পয়গাম্বর (সা) কি সুনাত ছে বে পরওয়ایی
অর্থাৎ এমন যমানায় যখন মানুষ পয়গাম্বর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুনাত থেকে বেপরওয়া

کرتے ہوں یا سنت پر عمل کرنے والوں کا مذاق اڑاتے ہوں، اگر ایسے نازک

কারতে ছ ইয়া সুনাত পর আমল কারনে ওয়ালু কা মযাক্ উড়াতে ছ। আগার এইছে নায়ুক
থাকবে অর্থাৎ সুনাতের উপর আমলকারীদের ঠাট্টা-বিদ্রুপ করবে, যদি এমন সংকটময়

وقت میں کوئی شخص سنت پر عامل رہے تو ایسے شخص کو یہ ثواب ملتا ہے۔

ওয়াক্ত মে কুয়ি শখছ সুনাত পর আমেল রাহে তু এইছে শখছ কু ইয়ে ছওয়াব মিলতা হে।
মূর্তে কোন ব্যক্তি সুনাতের উপর আমল করে, তাহলে এরূপ ব্যক্তির এ সওয়াব মিলবে।

حدیث: ۴- دین کی سمجھ رکھنے والا ایک عالم، شیطان پر

৪. হাদীস : দ্বীন কি সমুঝ রাখনে ওয়ালা এক আলিম, শয়তান পর
হাদীস ৪ : ধর্মীয় জ্ঞান সম্পন্ন একজন আলেম শয়তানের নিকট

ایک ہزار جاہل عابدوں سے بھی بھاری ہے۔

এক জাহেল আদমী কেতনা হি বড়া আবিদ ছ, শয়তান কু উস্ পর
এক হাজার মূর্খ আবেদ অপেক্ষাও কঠিন।

শব্দার্থ : মর্জি - منظور, উপনাম, কনিত, অনুসারী, পিরوی - ফুকাহায়ে সাহেবাইন, فقهاء صاحبین :
ইচ্ছা, تجارت, ব্যবসায়, চنانچہ - যেমন।

مطلب یہ ہے کہ جاہل آدمی کتنا ہی بڑا عابد ہو، شیطان کو

ایک ہزار جاہل آبدو ہے ہی باری ہے۔ متل ہے ایسے ہے
ہادیس کی اہل ہل مرقہ باریک یات بڑی آبدو ہوں نا کون، تار اہل شہانہ

اس اہل قابو پالینا آسان ہے مگر عالم اہل قبضہ کرنا مشکل ہے۔

کارو پا لینا آسان ہے، مگر اہل علم اہل کبیا کارنا مشکل ہے۔

اہل علم اہل علم ہے۔ کبھی آلمہ کے آہل کرا کبھی کبھی

ہدیث: ۵۔ جو شخص پورا پورا وضو کرتا ہے اور وضو کے بعد نماز پڑھتا ہے

۵. ہادیس: جو شخص پورا پورا وضو کرتا ہے اور وضو کے بعد نماز پڑھتا ہے
ہادیس ۵: یہ باریک اہل علم ہے اور اہل علم اہل علم ہے

اور نماز بھی اچھی طرح غور و فکر کے ساتھ ادا کرتا ہے، تو نماز کے بعد

آہل علم اہل علم ہے، تو نماز کے بعد
اور نماز بھی اچھی طرح غور و فکر کے ساتھ ادا کرتا ہے، تو نماز کے بعد

بالکل ایسا ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا ہے۔

بیل کول اہل علم ہے، تو نماز کے بعد

ایک بارے اہل علم ہے، تو نماز کے بعد

ہدیث: ۶۔ خدا کے بہترین بندے وہ ہیں، جو سورج کی دھوپ اور چاند تاروں کی

۶. ہادیس: جو خدا کے بہترین بندے وہ ہیں، جو سورج کی دھوپ اور چاند تاروں کی
ہادیس ۶: آہل علم اہل علم ہے، تو نماز کے بعد

گردش کو دیکھتے رہتے ہیں، تا کہ نماز کا وقت فوت نہ ہو جائے (حاکم)

گراہش کو دیکھتے رہتے ہیں، تا کہ نماز کا وقت فوت نہ ہو جائے (حاکم)

اہل علم اہل علم ہے، تو نماز کے بعد

হাদীথ: ৷- ৷. ৷মاعت ৷ে ৷ে ৷সজদ ৷ে ৷ানে ৷ালে ৷া ৷ার ৷দম

৷. ৷াদীস ৷ : ৷মাত ৷ে ৷ে ৷ে ৷সজদ ৷ে ৷ানে ৷ালে ৷া ৷ার ৷দম
৷াদীস ৷ : ৷মাতের ৷ন্য ৷সজদে ৷মনকারীর ৷তিটি ৷দমে

৷ক ৷েকী ৷ু ৷য়াজিব ৷ারতা ৷ে ৷ওয়ার ৷ক ৷োনা ৷ ৷ু ৷িটা ৷েতা ৷ো । (ইবনে ৷াজা)
৷কটি ৷েকী ৷য়াজিব ৷রে ৷বং ৷কটি ৷োনা ৷ মাফ ৷রে ৷েয় । (ইবনে ৷াজাহ)

হাদীথ: ৷- ৷. ৷ক ৷ুটি ৷ে ৷ালে ৷ি ৷য়াজা ৷ে ৷িন ৷াদমী ৷ান্নাত ৷ে

৷. ৷াদীস ৷ : ৷ক ৷ুটি ৷ে ৷ালে ৷ি ৷য়াজা ৷ে ৷িন ৷াদমী ৷ান্নাত ৷ে
৷াদীস ৷ : ৷কটি ৷ুটির ৷াস ৷িসকিনকে ৷ান ৷রার ৷ারণে ৷িন ৷্যক্তিকে ৷ান্নাতে

৷ি ৷ে ৷াতে ৷ে ৷ি ৷ক ৷ুম ৷েনে ৷য়লা, ৷ু ৷রে ৷ানা ৷াকানে ৷য়লা,
৷াঠান ৷বে । (৷) ৷দেশ ৷াতা; (৷) ৷ান্নাকারী;

৷িরে ৷ে ৷াদম ৷স ৷ে ৷ে ৷ুটি ৷া ৷য়লা ৷ি ৷কিন ৷ো ৷া ৷ার ৷িয়া । (৷াকীম-৷িবরানী)

৷ে ৷রে, ৷ ৷াদেম ৷িস ৷ে ৷ে ৷ুটি ৷া ৷য়লা ৷ি ৷কিন ৷ো ৷া ৷ার ৷িয়া । (৷াকীম-৷িবরানী)
(৷) ৷ ৷াদেম ৷ে ৷ুটির ৷ুকরা ৷িসকিনকে ৷িয়ে ৷সে ৷ে । (৷াকেম ৷াবারানি)

হাদীথ: ৷- ৷. ৷নি ৷োনা ৷ু ৷ে ৷াল ৷র ৷ন ৷র ৷ে ৷ি ৷ে

৷. ৷াদীস ৷ : ৷নি ৷না ৷ু ৷ে ৷াল ৷র ৷ন ৷র ৷ে ৷ি ৷ে
৷াদীস ৷ : ৷নী ৷ওয়া ৷োন ৷ালসম্পদের ৷পর ৷ীমাবদ্ধ ৷য়;

৷ল ৷ে ৷াওয়ান্গরী ৷ু ৷িল ৷ি ৷াত ৷ে । (৷ুখারী ৷ মুসলিম)

৷রং ৷নবান ৷ওয়া ৷ন্তরের ৷্যাপার । (৷ুখারী, মুসলিম)

শব্দার্থ : ৷পকৃত - ৷িষীয, ৷্ঞানের ৷্যতি, ৷র্জলী, ৷ূর্ণতা, ৷মাল, ৷িদ্যা, ৷فضل

حدیث : ۱۰۔ جس نے کسی محتاج آدمی کو اپنی دودھ دینے والی بکری

۱۰. ہادیس : جس نے کہہ کر ہوتا ہے کہ آدمی کو اپنی دودھ دینے والی بکری
ہادیس ۱۰ : یہ شخص کون ہے جس نے کہہ کر ہوتا ہے کہ آدمی کو اپنی دودھ دینے والی بکری

قرض دے دی یا کسی کو روپیہ پیسہ قرض دے دیا، یا کسی کو راستہ ہی بتا دیا

کری دے دی یا کسی کو روپیہ پیسہ قرض دے دیا، یا کسی کو راستہ ہی بتا دیا
کری دے دی یا کسی کو روپیہ پیسہ قرض دے دیا، یا کسی کو راستہ ہی بتا دیا

تو ایسے شخص کو ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ہوتا ہے۔ (ترمذی)

تو ایسے شخص کو ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ہوتا ہے۔ (ترمذی)
تو ایسے شخص کو ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ہوتا ہے۔ (ترمذی)

حدیث : ۱۱۔ روزہ دار کو چاہئے کہ فحش باتوں سے اجتناب کرے۔

۱۱. ہادیس : روزہ دار کو چاہئے کہ فحش باتوں سے اجتناب کرے۔
۱۱. ہادیس : روزہ دار کو چاہئے کہ فحش باتوں سے اجتناب کرے۔

اگر کوئی اس سے جھگڑا کرے یا روزہ دار کو گالی دے تو یہ

اگر کوئی اس سے جھگڑا کرے یا روزہ دار کو گالی دے تو یہ
اگر کوئی اس سے جھگڑا کرے یا روزہ دار کو گالی دے تو یہ

اس سے کہہ دے کہ میں روزہ دار ہوں، تیری گالی کا جواب

اس سے کہہ دے کہ میں روزہ دار ہوں، تیری گالی کا جواب
اس سے کہہ دے کہ میں روزہ دار ہوں، تیری گالی کا جواب

نہیں دوڑگا۔ روزہ دار کی منہ کی ہلکی ہلکی بساند اللہ تعالیٰ کے

نہیں دوڑگا۔ روزہ دار کی منہ کی ہلکی ہلکی بساند اللہ تعالیٰ کے
نہیں دوڑگا۔ روزہ دار کی منہ کی ہلکی ہلکی بساند اللہ تعالیٰ کے

کفار کی تلوار سے قتل ہو یا اونٹ اور گھوڑے سے گر کر مر گیا یا کسی

کوففار کی تلوار سے کتل ہوا یا اونٹ اور گھوڑے سے گر کر مر گیا یا کسی
ترباریں آغواتے مارا یا ک ائبا اوٹ با غوڈا ئههه ہڈے مارا یا ک ائبا کون

زہریلے کیڑے کے کاٹنے سے مر گیا یا اس کے بستر ہی پر اس کو موت

یا ہرلے کڈے کے کاٹنے سے مر گیا یا ایسا ڈسکے بلسئر ہر ہر ڈس کو موات
بمبائو ہوا-ماکڈےر دংশنے مارا یا ک ائبا نلآ بھانار اڈرہ ائار مٹھو

آگی، وہ ہر حالت میں شہید ہے اور اس کے لئے جنت ہے۔ (ابو داؤد)

آگاری اوہ ہار ہالائ مے شہد ہے آور ائس کے لنے آانائ ہے۔ (آبو داؤد)

اسے آاک، سربابھڑائ سے شہد ائبھ آار آنآ آانائ۔ (آبو داؤد)

حدیث: ۱۵۔ شہید کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں مگر قرض۔ (مسلم)

۱۵. ہادیس : شہد کے آامام گناہ ماہف ہ آاتے ہے مگر کرھ۔ (مسلم)

ہادیس ۱۵ : شہدےر کرج بآائیائ سکل گوناہ ماہف ہئے یار۔ (مسلم)

حدیث: ۱۶۔ خدا کے ذکر کے علاوہ تمام چیزیں سہو اور لہو ہیں۔

۱۶. ہادیس : آواداکے بکر کے آلاوہ آامام آلہ ساہو آور لاهو ہے۔

ہادیس ۱۶ : آلاہ آا'آالار آلکر بآائیائ سب کھوہ آرائ ائبھ انرئک۔

یعنی بے کار، مگر چار چیزیں:۔ ایک تیر کی مشق کے لئے چلنا پھرنا

ایسا'نل بےکار۔ مگر آار آلہ، اک آلر کل مشق کے لنے آلنا ہرنا،

کھڑ آارآ بھب بآائیائ : (۱) آلر آالنا شلکار آنآ آلنا-ہرنا

دوسرے گھوڑے کی سواری سیکھنا، تیسرے اپنی حلال

دھرے غوڈے کل سوارل سلکھنا۔ آہرے آانل ہالال

(۲) غوڈای آڈا شلکار کرا (۳) شلہ ہالال

حدیث: ۱۹۔ تاجروں کا حشر فاجروں کے ساتھ ہوگا۔ مگر جو تاجر خدا سے

۱۹. ہادیس : تاجروں کا ہاشر فاجروں کے ساتھ ہوگا۔ مگر جو تاجر خدا سے
ہادیس ۱۹ : ব্যবসایীদের ہاشر बदकारদের সঙ্গে হবে। তবে যে ব্যবসایী আলلہاہکے

ڈرتا ہے سچ بولتا ہے وہ قیامت میں شہداء اور صدیقین کے ہمراہ ہوگا۔ (ترمذی)

ڈرتا ہے سچ بولتا ہے وہ قیامت میں شہداء اور صدیقین کے ہمراہ ہوگا۔ (ترمذی)
ভয় করে সত্য কথা বলে সে কিয়ামতের দিন শহীদ এবং সত্যবাদীদের साथী হবে।

حدیث: ۲۰۔ چار چیزیں تمام پیغمبروں کی سنت میں داخل ہیں:-

۲۰. ہادیس : چار چیزیں تمام پیغمبروں کی سنت میں داخل ہیں:-

۲۰. ہادیس : چار چیزیں تمام پیغمبروں کی سنت میں داخل ہیں:-

۱۔ نکاح، ۲۔ مسواک، ۳۔ حیا اور ۴۔ خوشبو کا استعمال۔

۱. نکاح، ۲. مسواک، ۳. حیا اور ۴. خوشبو کا استعمال۔

(۱) نکاح-شادی; (۲) مسواک; (۳) لہجہ; (۴) سونگھنے کا استعمال۔

حدیث: ۲۱۔ ایک کالی اور نمٹی مگر دیندار عورت زیادہ

۲۱. ہادیس : ایک کالی اور نمٹی مگر دیندار عورت زیادہ

ہادیس ۲۱ : একজন کالی اور نمٹی مگر دیندار عورت زیادہ

بہتر ہے بددین اور خوبصورت عورت سے۔

بہتر ہے بددین اور خوبصورت عورت سے۔

بہتر ہے بددین اور خوبصورت عورت سے۔

حدیث: ۲۲۔ اللہ کی رضا مندی اور خوشنودی حاصل کرنے کی

۲۲. ہادیس : اللہ کی رضا مندی اور خوشنودی حاصل کرنے کی

ہادیس ۲۲ : اللہ کی رضا مندی اور خوشنودی حاصل کرنے کی

غرض سے جو مال خرچ کیا جائے اس میں صدقہ کا ثواب ملتا ہے۔

গরয ছে জু মাল খরচ কিয়া জায়ে উস মে সদকা কা ছওয়াব মিলতা হে।

উদ্দেশ্য যে মাল খরচ করা হয় তাতে ছদকার সওয়াব পাওয়া যায়।

یہاں تک کہ کھانے کا جو لقمہ تو اپنی بیوی کے منہ میں دیتا ہے،

ইয়াহা तक কে খানে কা জু লুকমা তু আপনি বিবি কে মুহ মে দেতা হে।

এমনকি খাদ্যের যে লোকমাটি তুমি তোমার স্ত্রীর মুখে তুলে দাও

اس پر بھی صدقہ کا ثواب ہوتا ہے۔ (بخاری و مسلم)

ইস পর ভি সদকা কা ছওয়াব ছতা হে। (বুখারী ও মুসলিম)

উহা দ্বারাও সদকার সওয়াব হয়ে থাকে। (বুখারী ও মুসলিম)

حدیث: ۲۳۔ ایک باپ کا اپنے بیٹے پر ادب سکھانے سے

২৩. হাদীস : এক বাپ কা আপনে বেটে পর আদব সিক্‌খানে ছে

হাদীস ২৩ : একজন পিতার জন্য নিজ সন্তানকে আদব শিক্ষা দেওয়া অপেক্ষা

بڑھ کر اور کوئی احسان نہیں ہے۔ (ترمذی)

বড়হ কর আওর কুয়ি ইহসান নেহী হে। (তিরমیزی)

বড় আর কোন অনুগ্রহ নেই। (তিরমیزی)

حدیث: ۲۴۔ کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھنے سے دس نیکیاں

২৪. হাদীস : কিতাবুল্লাহ কা এক হরফ পড়হনে ছে দম নেকীয়া লেক্‌হি

হাদীস ২৪ : আল্লাহর কিতাবের একটি হরফ পাঠ করলে দশটি সওয়াব

لکھی جاتی ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ الہم ایک حرف ہے۔ اگر کسی نے

জাতি হে। মাই ইয়ে নেহী কাহতা কে আলিফ লাম মীম এক হরফ হে। আগার কেছি নে

লেখা হয়। আমি এটা বলি না যে, আলিফ-লাম-মীম একটি হরফ। যদি কেউ

شکستہ - آدش، نمونہ - آلوکیت کرر، جگگؤں گی، پدیپ، مشعل - پشدرشک، رہبر : شدارث

کٹوراتا، مومنہ - ایماندار महिला۔

کھلایا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے پھل کھلائے گا۔ جس نے کسی

خیلایا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے پھل کھلائے گا، جس نے کھلی
خاویان، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے پھل کھلائے گا۔ جس نے کسی

پیاسے مسلمان کو پانی پلایا اسکو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ

پیاسے مسلمان کو پانی پلایا اسکو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ
پیاسے مسلمان کو پانی پلایا اسکو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ

پاک شراب پلایا گا جو سر بمبر ہوگی۔ (ابوداؤد)

پاک شراب پلایا گا جو سر بمبر ہوگی۔ (ابوداؤد)

امین پبلیشرز شراب پان کرابن، یا سئل کرابن

حدیث: ۳۰۔ لوگو! آنکھوں میں سرمہ لگایا کرو۔ سرمہ

حدیث: ۳۰۔ لوگو! آنکھوں میں سرمہ لگایا کرو۔ سرمہ

حدیث: ۳۰۔ لوگو! آنکھوں میں سرمہ لگایا کرو۔ سرمہ

آنکھ کے میل کو دور کرتا ہے اور بالوں کو اگاتا ہے۔ (ترمذی)

آنکھ کے میل کو دور کرتا ہے اور بالوں کو اگاتا ہے۔ (ترمذی)

آنکھ کے میل کو دور کرتا ہے اور بالوں کو اگاتا ہے۔ (ترمذی)

حدیث: ۳۱۔ جو خدا اور قیامت کے دن پر یقین رکھتا ہے،

حدیث: ۳۱۔ جو خدا اور قیامت کے دن پر یقین رکھتا ہے،

حدیث: ۳۱۔ جو خدا اور قیامت کے دن پر یقین رکھتا ہے،

اس کو چاہئے کہ مہمان کی تعظیم اور عزت کرے۔ (بخاری و مسلم)

اس کو چاہئے کہ مہمان کی تعظیم اور عزت کرے۔ (بخاری و مسلم)

اس کو چاہئے کہ مہمان کی تعظیم اور عزت کرے۔ (بخاری و مسلم)

حدیث: ۳۲۔ حدود قائم کرنے اور شرعی سزائیں دینے میں نہ

۳۲. ہادیس : ہدود کاہم کارنے آاور شرعی سزائی دینے مے نا
ہادیس ۳۲ : دند بیدان ٲرہوگ کرا شرعی شاستی دےواری کھتے

تو اپنے اور بیگانے میں فرق کیا کرو اور نہ کسی ملامت

تو آاپنے آاور بےگانےمے فرک کیا کارو آاور نا کھئی مالامات
آاپن و ٲرےر مٲہی ٲارکھائی کربے نا آےبھ کون تیرکھارکاریر

کرنے والے کی ملامت سے ڈرا کرو۔ (ابن ماجہ)

کارنےوہالے کی مالامات کھے ڈرا کارو ۔ (آےبنے ماجاھ)
تیرکھارےر ہئ کربے نا ۔ (آےبنے ماجا)

حدیث: ۳۳۔ تین باتیں جس شخص میں ہوں گی خدا تعالیٰ اس پر

۳۳. ہادیس : تین باتی جیس شخھ مے لھئی کھوذا تا'آالا اوس ٲر
ہادیس ۳۳ : ہے بئکھیر مٲہی تینٹی بئصئ ٲاکبے آاللاھ تا'آالا تار اٲر

اپنا ہاتھ رکھے گا اور اس کو بہشت میں داخل کر دے گا۔ (۱) کمزور پر

آاپنا ہات راکھے گا آاور آےسکو بےہشات مے داخےل کاردے گا ۔ (۱) کمجور ٲر
سوی ہات راکھےن آےبھ تاکے بےہشاتے ٲرہش کرابےن ۔ (۱) دؤربلدےر سبھ

نرمی کرنا (۲) ماں باپ پر شفقت کرنا (۳) غلام پر احسان کرنا۔ (ترمذی)

نرمی کارنا (۲) ما باٲ ٲر شفقت کربنا (۳) گولام ٲر آھسان کارنا (تیرمیثی)
نم بئہار کرا; (۲) ماتاٲتار اٲر مےہربانی کرا; (۳) گولامےر اٲر آھسان کرا ۔

حدیث: ۳۴۔ جس کو اپنے بھائی کی کوئی بُرائی معلوم ہوئی اور

۳۴. ہادیس : جیس کو آاپنے ہائی کی کوئی برائی معلوم لھئی آاور
ہادیس ۳۴ : ہینی تار ہائیےر کون دوشکرتی آبگت لھےن آےبھ

اس نے اس برائی کی تشہیر نہ کی بلکہ اس کو چھپا لیا، تو اللہ تعالیٰ

اس نے اس کو بھاری کی تاشہیر نا کی بلکہ اسکو چھپا لیا، تو اللہ تعالیٰ
تینی اے دوش پراار کرلنن نا برنر اها اونا کرلنن تالہل اناہ تالانا

قیامت میں اس بندے کے گناہ اور برائیاں چھپالیگا۔ (طبرانی)

کیامات مہ اس بندہ کہ اوناہ آاور بورییا چھپا لہگا۔ (تیبوانی)
کیاماتہر دین اے بآکیر اوناہ ابرنر دوش اراٹا اونا راکبنن۔ (تبارانی)

حدیث: ۳۵۔ کسی ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہہ دینا بہترین جہاد ہے۔ (ابوداؤد)

۳۵. ہادیس : کہی االہم بادشاہ کہ سامنہ ہک وات کاہ دنہا بہتہرین اناہ ہہ۔ (آبو داؤد)
ہادیس ۳۵ : کون اتآااارہ بادشاہر سامنہ ہک کتا بلہ دہا اناہ اباوات۔

حدیث: ۳۶۔ حیا اور ایمان ساتھ ساتھ ہیں۔ جب

۳۶. ہادیس : ہااا آاور امان ساا ساا ہہ، ابا
ہادیس ۳۶ : لآاا-اارم ابرنر امان اکہ اناہ سآہ۔ اااا

ایک چیز گئی تو سمجھو کہ دوسری بھی گئی۔

اک اناہ ااااا تو سامبا کہ دواہری اناہ ااااا۔
اکااا اناہ اناہ تاااا مناہ کرہہ اننااااا اناہ اناہ اناہ۔

حدیث: ۳۷۔ اللہ تعالیٰ حلیم ہے۔ حلیم اور نرمی کو پسند کرتا ہے (بخاری و مسلم)

۳۷. ہادیس : آناہ تالانا ہالام ہہ، اناہ آاور نارمی کوا پناہاااا ہہ۔ (بواہری و مسلم)
ہادیس ۳۷ : آناہ اناہ اناہ اناہ۔ اناہ اناہ اناہ اناہ اناہ اناہ۔

حدیث: ۳۸۔ لوگو! آسانی اور رفیق کے سامان پیدا کرو، مسلمانوں کو

۳۸. ہادیس : لوانا! آاسانی آاور رفااا کوا سامان پناہاااا کوا۔ مسلممانو کو
ہادیس ۳۸ : ہہ لوانااااا! سہا اناہ اناہ اناہ اناہ اناہ اناہ۔ مسلممانااااا

مشکل میں نہ ڈالو، نفرت پیدا کرنے کی کوشش نہ کرو۔ (بخاری و مسلم)

موشکیل مے نا ڈالو، نیفرت پیدا کارنے کی کوشش نا کارو۔ (بخاری و مسلم)
موشکیلے فہلیو نا۔ غنا-بیدھب سٹری کرار چہٹا کریر نا۔ (بخاری و مسلم)

حدیث: ۳۹۔ لوگوں کے درمیان صلح کرانا بہترین صدقہ ہے۔ (طبرانی، بزاز)

۷۹. ہادیس : لوگوکے درمیان سولہ کار نا بہترین سدکا ہہ۔ (تبرانی، باقیبا)
ہادیس ۷۹ : مانوسر مہیہ پرسمپر میل کرے دہویا اوتوم سدکا۔

حدیث: ۴۰۔ اللہ کے لئے کسی سے محبت کرنا اور اللہ کے لئے کسی

80. ہادیس : آلاہکے لیے کھہی ھہ موبت کارنا آور آلاہ کے لیے کھہی
ہادیس 80 : آلاہر سمبٹری جنی کارو سمپہ موبت راکا اہہ آلاہر سمبٹری جنی کارو

سے دشمنی کرنا بہترین عمل ہے۔ (ابوداؤد) (ازاربعین سید عبدالاحد قاسمی)

ھہ دشمنی کارنا بہترین آمال ہہ۔ (آبو داؤد) (آی آر بادین سہیہد آبدول آہاد کاسمی)
سمپہ شکرنا راکا سربوتوم آمال۔

اخلاقی کہانیاں

آخالاکہی کاهانییا

آچار باباہار سمپکریی اودہش

بلبل اور باز: ایک دفعہ موسم بہار میں ایک بلبل کسی باز سے کہنے لگی کہ

بولبول آور باج : اک دفا' موسومہ باہار مہ اک بولبول کھہی بای ھہ کاہنہ لاگی کے
بولبول و باج پاخی : اکدا بسننکالہ اکٹی بولبول کون اکٹی باجکے بلتہ لاگل ہہ

چڑیوں میں تجھ سے زیادہ خاموش کوئی اور نہیں۔ تو نہ کبھی چہچہاتا ہے

چڈی مہ تورا ھہ بییاداہ آاموش کوی آور نہہی تو نا کبہی چخچخاتا ہہ
پاخیدہر مہیہ تومار چہیہ نیشوپ آر کون پاخی نہہی۔ تومی نا کخنو چہامہٹی کر،

نہ کبھی میری طرح اچھے اچھے گانے سناتا ہے۔ پھر بھی بادشاہ

نا کبھی میری تھراہ آچھے آچھے گانے سنا تا ہے، فہر بھی بادشاہ

نا کখনو آمار مٹ گان شوناو، تھاپی بادشاہ

تجھ کو اپنی کلانی پر لئے پھرتا ہے۔ اور اچھے سے اچھا گوشت تجھے

توہ کو آپنی کھلائی پر لیے پھرتا ہے۔ آوہر آچھے ہے آچھا گوشت توہو
توہ کو تار ہاتہر کجیر ہپر نیہے غورا-غوری کرے اہہ ہال ہال گوشت

کھانے کو دیتا ہے۔ میں اپنے کو دیکھتی ہوں تو بڑا تعجب کرتی ہوں

خانہ کو دہتا ہے۔ مایہ آپنہ کو دہتہ ہ تھو ہڈا تا آجھوہ کارتہ ہ

خہتہ دہے۔ آمی نیہر ہر تہ لکھہ کرے اتہ ہت آشہرہ ہوہ کرہ

کہ ایسی خوش الحانی اور نغمہ سرائی دن بھر کیا کرتی ہوں، مگر بادشاہ

کہہ ایہی خوہ ہلہانی آوہر نوحما سرائی دہن ہر کیا کارتہ ہ۔ مہر بادشاہ

ہے، آمی اہمن سوندہ سوره سومہور گان کرہ اتہ بادشاہ

مجھے آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا۔ یہی کیڑے مکوڑے میری غذا ہیں۔

مورہ آکھ ہٹا کار نہہی دہختا، ہہوہی کیدہ ماکوڈہ مہری گایا ہ

چوہ تولہ آمار ہر تہ تاکای نا۔ ایہ ہوکاماکڈ آمار خادہ

اور یہی خاردار شاخیں میرا نشیمن ہیں۔ باز نے جواب دیا کہ اب

آوہر ہہوہی خاردار شای مہرا ناشیمان ہ۔ ہای نہ ہوہاب دہیا کہہ آہ

اہہ کاتایوکت ڈالہ آمار ہاسا۔ ہایہ پایہ ہہاب دہل، اہن

تو میری بات ذرا کان لگا کر سن! تو اپنی خوش الحانی اور نغمہ سرائی پر

تھ مہری ہات ہرا کان لاگا کرا سون۔ تھ آپنی خوہ ہلہانی آوہر نوحما سرائی ہر
آمار کھاکھ اکٹھ منوہوگسہ شون! تاہلہ تھمی نیہر ہوندہ سہر اہہ سومہٹ گانہر ہپر

وہ میرا کام اور خاموشی دیکھ کر میری قدر کیوں نہ کرے اور مجھے عزیز کیوں نہ رکھے؟

وہ میرا کام آؤر خاموشی دیکھ کر میری کدور کدور نا کارے آؤر موزے آویب کدور نا راکھے؟
تینی آمار کاج اےبھ نیربوا دےخے آمار کدور کدور کرکےن نا؟ آار آمارکے پریپاآر کدور باناکن نا؟

تیرا یہ حال ہے کہ دن بھر بگ بگ کیا کرتی ہے، کام تو خاک نہیں کرتی

تورا ایے حال هے که دین بھر بک بک کیرا کارتی هے، کام تو خاک نهی کارتی
تومار ابسوا هل سارا دین بک بک کرتے آکا۔ کاج-کرم تو آئی کیکوئی کر نا

اور چیخ چیخ کے سرکھا جاتی ہے۔ تیری قدر تو وہی کرے گا

آؤر آخ آخ که آھر آا آاآتی هے۔ تیری کدور تو وھی کارے آا
اےبھ آیکار کرے آاآا نسط کرے فیل۔ تومار کدور تو سئی کرکے

جس کا سر پھرا ہوا اور کام کو کام نہ سمجھتا ہو۔ بلبل نے جب یہ سنا تو

آیس کا سیر فیرا آا آؤر کام کو کام نا سمبواتا آ۔ بول بول نے آب ایے سونا آ
آار آاآا بیکڈانوا اےبھ کاجکے کاج منے نا کرے۔ بولبول یآن اےکآا آونل،

لا جواب ہوگئی اور باز کی نصیحت سے اس پر ظاہر ہو گیا کہ

آا آؤراب آ آا آا آؤر باآ کی نسیآت آے ایس پر آاآھر آ آا آا که
آآن نیرکؤر آے آیل اےبھ باآپاآیر اؤدیش آار نیکآ سوسپسط آے آیل یے

دنیا باتو کو نہیں دیکھتی کام کو دیکھتی ہے!

دوئییا باآو کو نهی دیکھتی کام کو دیکھتی هے!

دوئییا کآاکے دےخے نا برک کاجکے دےخے۔

(২) ارادے کی کمزوری

ইরাদে কী কমজোরী

ইচ্ছার দুর্বলতা

ایک شخص آوارہ اور بد وضع، بدمعاشوں میں رہتا اور سب طرح کے

এক শখছ আওয়ারা আওর বদ ওয়ায়া' বদ মাআশু মে রাহতা আওর ছব তারাহ কে এক ব্যক্তি লম্পট দুশরিত্র এবং বদমাশদের সঙ্গে বসবাস করত এবং সব ধরনের

عیب کے کام کرتا۔ اتفاق سے کوئی مولوی صاحب اس محلے میں آکر رہے۔

আইব কে কাম কারতা । ইওফাক ছে কুয়ি মওলুভী সাহেব ইস মহল্লে মে আকার রাহে । অন্যায় কাজকর্ম করত । ঘটনাক্রমে কোন মৌলবী সাহেব ঐ মহল্লায় এসে থাকতে লাগল ।

مولوی صاحب محلے میں وعظ کہا کرتے۔ دوچار مرتبہ اس شخص نے بھی وعظ سنا

মৌলবী সাহেব মহল্লে মে ওয়ায কাহা কারতে, দু'চার মরতবা ইস শখছ নে ভি ওয়ায সুন্য মৌলবী সাহেব মহল্লার মধ্যে ওয়াজ করতেন । দু'চার বার ঐ ব্যক্তিও ওয়াজ শুনেছে

اور اس کے دل میں ایک طرح کا اثر ہوا۔ مولوی صاحب نے اس کو بار بار سمجھایا

আওর ইসকে দিল মে এক তারাহ কা আছর হুয়া, মৌলবী সাহেব নে ইসকু বারহা সমঝায়া এবং তার অন্তরে কিছুটা প্রতিক্রিয়াও সৃষ্টি হয়েছে । মৌলভী সাহেব তাকে বার বার

کہ زندگی کا اعتماد نہیں، تم بہت عمر ضائع کر چکے ہو۔ اب بھی توبہ کرو۔

কে যিন্দেগী কা ই'তিমাদ নেহী । তুম বহুত উমর যায়ে' কার চুকে হু-আব ভি তওবা কারো, বুঝালেন যে, জীবনের কোন ভরসা নেই । তুমি জীবনে অনেক সময় নষ্ট করে ফেলেছ, এখনও তওবা কর ।

یہ شخص ہر روز مولوی صاحب سے وعدہ کرتا کہ گل ضرور توبہ کرونگا۔

ইয়ে শখছ হার রোয মৌলবী সাহেব ছে ওয়াদা কারতা কে কাল জরুর তওবা কারো গা ।

এ ব্যক্তি প্রতিদিন মৌলভী সাহেবের নিকট ওয়াদা করত যে, কাল অবশ্যই তওবা করব ।

کل کرتے کرتے کئی برس گذر گئے۔ آخر کو مولوی صاحب نے کہا کہ

کال کارتے کارتے کای بربھ گویار گایے۔ آخیر کو مولوی صاحب نے کہا کہ کال کرتے کرتے کایک بربھ کے ٹے گیل۔ اب شیشے مولوی صاحب بلبیلن،

”بھائی تمہاری کل تو قیامت کی کل ہے۔ تمہاری کل نہ آئی ہے نہ کبھی

”بھائی تمہاری کال تو قیامت کی کال ہے۔ تمہاری کال نہ آئی ہے نہ کبھی
بھائی تمہاری کال تو کال قیامت ہے۔ تمہاری کال آئے نہ، کبھی نہ

آئے گی اور نہ تم اس کو آنے دو گے۔ اگر تم کو توبہ کرنی ہے تو آج ہی کر لو

آئے گی اور نہ تم اس کو آنے دو گے۔ اگر تم کو توبہ کرنی ہے تو آج ہی کر لو
آئے گی اور نہ تم اس کو آنے دو گے۔ اگر تم کو توبہ کرنی ہے تو آج ہی کر لو

کل کا نام مت لو۔“ حاصل :- جو کام آج کر سکتے ہیں اسکو کل پر ٹالنا

کل کا نام مت لو۔“ حاصل :- جو کام آج کر سکتے ہیں اسکو کل پر ٹالنا
کل کا نام مت لو۔“ حاصل :- جو کام آج کر سکتے ہیں اسکو کل پر ٹالنا

ہمارے ارادے کے ضعف اور کمزوری کی دلیل ہے۔

ہمارے ارادے کے ضعف اور کمزوری کی دلیل ہے۔
ہمارے ارادے کے ضعف اور کمزوری کی دلیل ہے۔

ہمارے ارادے کے ضعف اور کمزوری کی دلیل ہے۔
ہمارے ارادے کے ضعف اور کمزوری کی دلیل ہے۔

(۳) اتفاق کی قوت

ایک شخص کے کئی بیٹے تھے۔ یہ بے ادب لڑکے آپس میں ہر روز لڑتے۔

ایک شخص کے کئی بیٹے تھے۔ یہ بے ادب لڑکے آپس میں ہر روز لڑتے۔
ایک شخص کے کئی بیٹے تھے۔ یہ بے ادب لڑکے آپس میں ہر روز لڑتے۔

ایک شخص کے کئی بیٹے تھے۔ یہ بے ادب لڑکے آپس میں ہر روز لڑتے۔

ایک شخص کے کئی بیٹے تھے۔ یہ بے ادب لڑکے آپس میں ہر روز لڑتے۔
ایک شخص کے کئی بیٹے تھے۔ یہ بے ادب لڑکے آپس میں ہر روز لڑتے۔

ایک شخص کے کئی بیٹے تھے۔ یہ بے ادب لڑکے آپس میں ہر روز لڑتے۔
ایک شخص کے کئی بیٹے تھے۔ یہ بے ادب لڑکے آپس میں ہر روز لڑتے۔

باپ ہر چند سمجھاتا، مگر کچھ اثر نہ ہوتا۔ ایک مرتبہ باپ نے

واپ ہار چاند سمبھاتا۔ مگر کچھ اثر نہ ہوتا۔ ایک مرتبہ باپ نے
پیتا যদি و بوقت کبھی کوئی کام نہ ہوتا۔ ایک بار پیتا

ان سب لڑکوں کو جمع کر کے ایک کچے سوت کی آٹی دی اور

ہن لڑکوں کو جمع کر کے ایک کچے سوت کی آٹی دی اور
ہن لڑکوں کو جمع کر کے ایک کچے سوت کی آٹی دی اور

کہا کہ اس پر اپنا اپنا زور آزماؤ۔ ہر ایک نے کچا کچا کر بہتر اور کیا،

کہا کہ اس پر اپنا اپنا زور آزماؤ۔ ہر ایک نے کچا کچا کر بہتر اور کیا،
کہا کہ اس پر اپنا اپنا زور آزماؤ۔ ہر ایک نے کچا کچا کر بہتر اور کیا،

آٹی کو ایک بھی نہ توڑ سکا۔ پھر باپ نے ہر ایک کو ایک ایک کر کے کچا سوت

آٹی کو ایک بھی نہ توڑ سکا۔ پھر باپ نے ہر ایک کو ایک ایک کر کے کچا سوت
آٹی کو ایک بھی نہ توڑ سکا۔ پھر باپ نے ہر ایک کو ایک ایک کر کے کچا سوت

دے کر کہا کہ اسے توڑو۔ سبھوں نے ایک ایک جھٹکے ہی میں اپنا اپنا

دے کر کہا کہ اسے توڑو۔ سبھوں نے ایک ایک جھٹکے ہی میں اپنا اپنا
دے کر کہا کہ اسے توڑو۔ سبھوں نے ایک ایک جھٹکے ہی میں اپنا اپنا

سوت توڑ ڈالا۔ اب باپ نے کہا کہ دیکھو! کچا سوت کتنا کمزور ہوتا ہے،

سوت توڑ ڈالا۔ اب باپ نے کہا کہ دیکھو! کچا سوت کتنا کمزور ہوتا ہے،
سوت توڑ ڈالا۔ اب باپ نے کہا کہ دیکھو! کچا سوت کتنا کمزور ہوتا ہے،

مگر بہت سے کمزور مل کر اس قدر مضبوط ہو گئے ہیں کہ تم میں سے

مگر بہت سے کمزور مل کر اس قدر مضبوط ہو گئے ہیں کہ تم میں سے
مگر بہت سے کمزور مل کر اس قدر مضبوط ہو گئے ہیں کہ تم میں سے

کوئی بھی اسے نہ توڑ سکا۔ مگر جب یہی سوت الگ الگ کر دئے گئے

کویں بھی اسے نہ توڑ سکا، مگر جب یہی سوت الگ الگ کر دئے گئے
کویں بھی اسے نہ توڑ سکا، مگر جب یہی سوت الگ الگ کر دئے گئے
کویں بھی اسے نہ توڑ سکا، مگر جب یہی سوت الگ الگ کر دئے گئے

تو تم میں سے ہر ایک نے سب کو آسانی سے توڑ دیا۔ اسی طرح یاد رکھو!

تو تم میں سے ہر ایک نے سب کو آسانی سے توڑ دیا۔ اسی طرح یاد رکھو!
تو تم میں سے ہر ایک نے سب کو آسانی سے توڑ دیا۔ اسی طرح یاد رکھو!
تو تم میں سے ہر ایک نے سب کو آسانی سے توڑ دیا۔ اسی طرح یاد رکھو!

کہ تم بھائی بھائی اگر متفق رہو گے تو کوئی دشمن تم کو کسی طرح کا نقصان

کہ تم بھائی بھائی اگر متفق رہو گے تو کوئی دشمن تم کو کسی طرح کا نقصان
کہ تم بھائی بھائی اگر متفق رہو گے تو کوئی دشمن تم کو کسی طرح کا نقصان
کہ تم بھائی بھائی اگر متفق رہو گے تو کوئی دشمن تم کو کسی طرح کا نقصان

نہ پہنچا سکے گا۔ اور اگر ایک دوسرے سے جدائی اختیار کرو گے

نہ پہنچا سکے گا۔ اور اگر ایک دوسرے سے جدائی اختیار کرو گے
نہ پہنچا سکے گا۔ اور اگر ایک دوسرے سے جدائی اختیار کرو گے
نہ پہنچا سکے گا۔ اور اگر ایک دوسرے سے جدائی اختیار کرو گے

تو ہر ایک آدمی تم پر غالب رہے گا۔

تو ہر ایک آدمی تم پر غالب رہے گا۔
تو ہر ایک آدمی تم پر غالب رہے گا۔
تو ہر ایک آدمی تم پر غالب رہے گا۔

حضرت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ

حضرت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ
حضرت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ
حضرت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ

دین کے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے لئے مسلمانوں نے بہت سے

دین کے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے لئے مسلمانوں نے بہت سے
دین کے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے لئے مسلمانوں نے بہت سے
دین کے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے لئے مسلمانوں نے بہت سے

علوم ایجاد کئے اور ان علوم کے ایسے ایسے عالم پیدا ہوئے کہ اسلام کی

ولمہ ایجاد کیے اور ان علوم کے ایسے ایسے عالم پیدا ہوئے کہ اسلام کی
ولمہ ایجاد کیے اور ان علوم کے ایسے ایسے عالم پیدا ہوئے کہ اسلام کی

تاریخ میں ان کا نام قیامت تک باقی رہے گا۔ انھیں علوم میں

کی تاریخ میں ان کا نام قیامت تک باقی رہے گا۔ انھیں علوم میں
کی تاریخ میں ان کا نام قیامت تک باقی رہے گا۔ انھیں علوم میں

ایک علم فقہ ہے جس کے ایک زبردست عالم حضرت امام ابوحنیفہؒ تھے۔

ایک علم فقہ ہے جس کے ایک زبردست عالم حضرت امام ابوحنیفہؒ تھے۔
ایک علم فقہ ہے جس کے ایک زبردست عالم حضرت امام ابوحنیفہؒ تھے۔

امام ابوحنیفہؒ نے دینی مسائل کو اچھی طرح سمجھنے کے لئے اور

امام ابوحنیفہؒ نے دینی مسائل کو اچھی طرح سمجھنے کے لئے اور
امام ابوحنیفہؒ نے دینی مسائل کو اچھی طرح سمجھنے کے لئے اور

ان پر ٹھیک ٹھیک عمل کرنے کے لئے ایک اعلیٰ درجہ کا اصول تیار کیا۔

ان پر ٹھیک ٹھیک عمل کرنے کے لئے ایک اعلیٰ درجہ کا اصول تیار کیا۔
ان پر ٹھیک ٹھیک عمل کرنے کے لئے ایک اعلیٰ درجہ کا اصول تیار کیا۔

اور اس سلسلے میں امام صاحبؒ نے اسلام کی ایک ایسی بے مثل خدمت

اور اس سلسلے میں امام صاحبؒ نے اسلام کی ایک ایسی بے مثل خدمت
اور اس سلسلے میں امام صاحبؒ نے اسلام کی ایک ایسی بے مثل خدمت

انجام دی ہے کہ جس کو دنیا فراموش نہیں کر سکتی۔ یوں تو آپ کے شاگردوں

انجام دی ہے کہ جس کو دنیا فراموش نہیں کر سکتی۔ یوں تو آپ کے شاگردوں
انجام دی ہے کہ جس کو دنیا فراموش نہیں کر سکتی۔ یوں تو آپ کے شاگردوں

کی تعداد بے شمار ہے۔ مگر ان میں امام ابو یوسفؒ اور امام محمدؒ بہت

کی تہ'داد ہشمار ہہ۔ مگر ان میں امام ابو یوسفؒ اور امام محمدؒ بہت کی تہ'داد ہشمار ہہ۔ مگر ان میں امام ابو یوسفؒ اور امام محمدؒ بہت

مشہور اور جلیل القدر شاگرد ہیں جنہیں فقہاء صاحبین کے نام سے یاد کرتے ہیں۔

مشہور اور جلیل القدر شاگرد ہیں جنہیں فقہاء صاحبین کے نام سے یاد کرتے ہیں۔

حضرت امام ابو حنیفہؒ اور ان کے ان دونوں شاگردوں نے جس فقہ

حضرت امام ابو حنیفہؒ اور ان کے ان دونوں شاگردوں نے جس فقہ

کی ترتیب و تدوین کی اُسے فقہ حنفی کہتے ہیں۔ اور ان کے پیروی کرنے

کی ترتیب و تدوین کی اُسے فقہ حنفی کہتے ہیں۔ اور ان کے پیروی کرنے

والے حنفی کہلاتے ہیں۔ آپ کا نام نعمان اور آپ کے والد کا نام

والے حنفی کہلاتے ہیں۔ آپ کا نام نعمان اور آپ کے والد کا نام

ثابت تھا۔ مگر آپ اپنی کنیت ابو حنیفہؒ سے مشہور ہوئے۔

ثابت تھا۔ مگر آپ اپنی کنیت ابو حنیفہؒ سے مشہور ہوئے۔

آپ کے دادا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں مشرف باسلام ہوئے تھے

آپ کے دادا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں مشرف باسلام ہوئے تھے

وہ فارس کے رہنے والے تھے۔ مگر اسلام لانے کے بعد کوفہ میں اقامت

وہ فارس سے رہنے والے تھے۔ مگر اسلام لانے کے بعد کوفہ میں اقامت
وہ فارس سے رہنے والے تھے۔ مگر اسلام لانے کے بعد کوفہ میں اقامت
وہ فارس سے رہنے والے تھے۔ مگر اسلام لانے کے بعد کوفہ میں اقامت

پذیر ہو گئے۔ اور یہیں ۸۰ھ میں امام ابوحنیفہؒ کی پیدائش ہوئی۔

پذیر ہو گئے۔ اور یہیں ۸۰ھ میں امام ابوحنیفہؒ کی پیدائش ہوئی۔
پذیر ہو گئے۔ اور یہیں ۸۰ھ میں امام ابوحنیفہؒ کی پیدائش ہوئی۔
پذیر ہو گئے۔ اور یہیں ۸۰ھ میں امام ابوحنیفہؒ کی پیدائش ہوئی۔

چونکہ آپ کے دادا کپڑے کی تجارت کیا کرتے تھے، اس لئے بچپن میں

چونکہ آپ کے دادا کپڑے کی تجارت کیا کرتے تھے، اس لئے بچپن میں
چونکہ آپ کے دادا کپڑے کی تجارت کیا کرتے تھے، اس لئے بچپن میں
چونکہ آپ کے دادا کپڑے کی تجارت کیا کرتے تھے، اس لئے بچپن میں

امام صاحبؒ کی توجہ تجارت ہی کی طرف رہی۔ تعلیم حاصل کرنے کا

امام صاحبؒ کی توجہ تجارت ہی کی طرف رہی۔ تعلیم حاصل کرنے کا
امام صاحبؒ کی توجہ تجارت ہی کی طرف رہی۔ تعلیم حاصل کرنے کا
امام صاحبؒ کی توجہ تجارت ہی کی طرف رہی۔ تعلیم حاصل کرنے کا

خیال نہ خود آپ کو ہوا اور نہ آپ کے والد صاحب کو، مگر اللہ تعالیٰ کو

خیال نہ خود آپ کو ہوا اور نہ آپ کے والد صاحب کو، مگر اللہ تعالیٰ کو
خیال نہ خود آپ کو ہوا اور نہ آپ کے والد صاحب کو، مگر اللہ تعالیٰ کو
خیال نہ خود آپ کو ہوا اور نہ آپ کے والد صاحب کو، مگر اللہ تعالیٰ کو

کچھ اور ہی منظور تھا۔ چنانچہ ایک دن کا واقعہ ہے کہ امام صاحبؒ بازار

کچھ اور ہی منظور تھا۔ چنانچہ ایک دن کا واقعہ ہے کہ امام صاحبؒ بازار
کچھ اور ہی منظور تھا۔ چنانچہ ایک دن کا واقعہ ہے کہ امام صاحبؒ بازار
کچھ اور ہی منظور تھا۔ چنانچہ ایک دن کا واقعہ ہے کہ امام صاحبؒ بازار

جا رہے تھے، کہ امام شعیبؒ نے جو ایک بہت بڑے بزرگ عالم تھے،

جا رہے تھے، کہ امام شعیبؒ نے جو ایک بہت بڑے بزرگ عالم تھے،
جا رہے تھے، کہ امام شعیبؒ نے جو ایک بہت بڑے بزرگ عالم تھے،
جا رہے تھے، کہ امام شعیبؒ نے جو ایک بہت بڑے بزرگ عالم تھے،

انہیں بلایا اور پوچھا کہ کیا پڑھتے ہو؟ آپ نے سارا حال بتایا اور تعلیم

ونہی بولا یا آوےر پوچھا کہ کیا پڑھتے ہو؟ آپ نے سارا حال بتایا اور تعلیم
تینی ہرر تہ ایمام ساہبکے ڈاکلنن اےبھجیجسا کرلنن، تومی کی لکھاپڈا کر؟ تینی سکل اےبھجیجسا کرلنن اےبھجیجسا کرلنن اےبھجیجسا کرلنن

حاصل نہ کرنے کے اسباب بھی بیان کئے۔ تمام حال سنکر امام شعیبؒ نے

ہاسیل نا کارننن کہ آسباب ہجی بغان کیے۔ تامام حال سونکار ایمام شابی (رہ:) نئ
اےرجن نا کرار کارننن و بگننا کرلنن۔ سمسٹ اےبھجیجسا کرلنن ایمام شابی (رہ.) اے

نصیحت کی کہ بیٹا! تمہارے اندر قابلیت کے جوہر نظر آتے ہیں۔ تم

نہیہت کی کہ بئٹا! تمہارے اندر قابلیت کے جوہر نظر آتے ہیں۔ تم
نہیہت کی کہ بئٹا! تمہارے اندر قابلیت کے جوہر نظر آتے ہیں۔ تم

پڑھو گے تو بہت بڑے عالم بن جاؤ گے۔ اسی دن سے امام ابوحنیفہؒ کو

پڑھو گے تو بہت بڑے عالم بن جاؤ گے۔ اسی دن سے امام ابوحنیفہؒ کو
پڑھو گے تو بہت بڑے عالم بن جاؤ گے۔ اسی دن سے امام ابوحنیفہؒ کو

علم کا شوق ہوا۔ اور یہ شوق اتنا بڑھا کہ حصول علم کے سوا کسی بات کی

علم کا شوق ہوا۔ اور یہ شوق اتنا بڑھا کہ حصول علم کے سوا کسی بات کی
علم کا شوق ہوا۔ اور یہ شوق اتنا بڑھا کہ حصول علم کے سوا کسی بات کی

طرف توجہ و دلچسپی ہی باقی نہ رہی۔ آپ اسی طلب علم کے شوق میں مکہ معظمہ،

طرف توجہ و دلچسپی ہی باقی نہ رہی۔ آپ اسی طلب علم کے شوق میں مکہ معظمہ،
طرف توجہ و دلچسپی ہی باقی نہ رہی۔ آپ اسی طلب علم کے شوق میں مکہ معظمہ،

مدینہ منورہ اور بصرہ جو اُس وقت دینی علم کے مرکز تھے، سفر کیا اور اُس

مدینہ منورہ اور بصرہ جو اُس وقت دینی علم کے مرکز تھے، سفر کیا اور اُس
مدینہ منورہ اور بصرہ جو اُس وقت دینی علم کے مرکز تھے، سفر کیا اور اُس

زمانے کے بڑے بڑے علماء سے حدیث و فقہ کا علم حاصل کیا۔

یمانے کے بڑے بڑے اولاما ہے ہادیس و فیکہ کا علم حاصل کیا۔
کرنے اے و ئے یامانای بڑ بڑ آلام تھے ہادیس و فیکہ کے آرن کرےن۔

جب علم و فضل میں کمال حاصل کر لیا تو اپنے وطن کو فہ واپس آئے اور

جب علم و فضل میں کمال حاصل کر لیا تو اپنے وطن کو فہ واپس آئے اور
جب علم و فضل میں کمال حاصل کر لیا تو اپنے وطن کو فہ واپس آئے اور

درس و تدریس میں مشغول ہوئے۔ آپ کے تہ علمی کی شہرت چاروں

درس و تدریس میں مشغول ہوئے۔ آپ کے تہ علمی کی شہرت چاروں
درس و تدریس میں مشغول ہوئے۔ آپ کے تہ علمی کی شہرت چاروں

طرف پھیل گئی اور دور دور سے لوگ آپ کے علم سے فیض یاب ہونے کے

طرف پھیل گئی اور دور دور سے لوگ آپ کے علم سے فیض یاب ہونے کے
طرف پھیل گئی اور دور دور سے لوگ آپ کے علم سے فیض یاب ہونے کے

لئے آنے لگے۔ امام شعبیؒ جیسے عالم و فاضل کا قول ہے کہ جو شخص فقہ حاصل

لئے آنے لگے۔ امام شعبیؒ جیسے عالم و فاضل کا قول ہے کہ جو شخص فقہ حاصل
لئے آنے لگے۔ امام شعبیؒ جیسے عالم و فاضل کا قول ہے کہ جو شخص فقہ حاصل

کرنے کا ارادہ کرے اس کو چاہئے کہ امام ابوحنیفہؒ کی شاگردی نہ چھوڑے۔

کرنے کا ارادہ کرے اس کو چاہئے کہ امام ابوحنیفہؒ کی شاگردی نہ چھوڑے۔
کرنے کا ارادہ کرے اس کو چاہئے کہ امام ابوحنیفہؒ کی شاگردی نہ چھوڑے۔

آپ میں بے نیازی ایسی تھی کہ جب خلیفہ منصور نے اپنے دار الحکومت

آپ میں بے نیازی ایسی تھی کہ جب خلیفہ منصور نے اپنے دار الحکومت
آپ میں بے نیازی ایسی تھی کہ جب خلیفہ منصور نے اپنے دار الحکومت

بغداد کا قاضی القضاة بنانا چاہا تو آپ نے محض اس لئے انکار کر دیا

ہاگداد کا کاجیول کویات بانانا چاہا تو آپ نے مہی اسلیے اینکار کاردییا ہاگدادےہ ہرہان ہیاارک باناٹے چان، تখন تینی شہو ا کارہے اسہیکار کربن

کہ ملازمت کے بعد خلیفہ اور اس کے عمال کے معاملے میں آزادی کے ساتھ

کہ مولایمات کہ ہا'د خلیفا آاور اُسکے اُممال کہ مولامیلے مے آایادی کہ ساہ ہے، چاکریرت ہویار ہر خلیفا اہہ کرمکرتاڈےہ ہیاہارے ساہینہاہے

زبان نہ کھول سکیں گے۔ آپ کے اس انکار پر خلیفہ آپ کا دشمن ہو گیا اور آپ کو

ہبان نا خول سکے ہے۔ آپ کہ اُس اینکار ہر خلیفا آپکا دوشمن ہ گیا آاور آپ کو مؤخ خولٹے سہہم ہبےن نا۔ اُار اسہیکارےہ ہر خلیفا اار شہر ہے ہان اہہ تاکے

قید خانے میں ڈلوادیا۔ مگر وہاں بھی طلباء کا بے شمار اجتماع ہونے لگا۔ اس پر

کےہدخانے مے ڈالویا دییا، مہر وها ہي تولابا کا ہےشمار اہجیٹما' ہنے لاہا۔ اُسہر ہےلخانای آابہہ کربن۔ تہے اہانےو اسہہہ شیکارہیڈےہ ہيڈ ہٹے شہر کربل۔ اار سہہہرکے

کہتے ہیں کہ منصور نے آپ کو زہر دلوادیا جس کے اثر سے آپ جانبر نہ ہو سکے

کاہٹے ہے کہ مانسور نے آپ کو ہہر دیلویا دییا۔ ہیسکے آاھر ہے آپ جانہار نا ہسکے کہیٹ آاہے ہے، خلیفا مانسور تاکے ہیہ آاویا، ہار ہرٹیکریای تینی ہیہیت ہاکٹے ہارےن ناہ

اور ۱۵۰ھ میں داعی اجل کو لبیک کہا اور بغداد ہی میں مدفون ہوئے۔

آاور ۱۵۰ ہجری مے داییے آجال کو لاکہایک کاہا آاور ہاگدادہی مے مادفون ہے۔ اہہ ۱۵۰ ہجری سنے اسہیڈ ڈاکے ساڈا دن اہہ ہاگدادےہ تاکے دافن کرا ہے۔

آپ بڑے عابد و زاہد تھے، برابر روزے رکھتے اور رات بھر خدا کی عبادت کرتے

آپ ہڈے آابےد ا ہاہےد ہے۔ ہراہر رےہے راکہٹے آاور راتہر آاڈا کئی اہبادت کارٹے تینی اکہن ہڈ آابےد و ہرمنیٹ ہاکی ہیلےن۔ سہدا رےہا راکہٹےن اہہ سارارات آالہار اہبادت کربٹےن۔

اور تلاوت قرآن مجید فرماتے۔ ایک روایت میں ہے کہ جس مکان میں آپ

آپ اور تیرا ملاقات کرتے تھے اور آپ کو کھانا پکانا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ جس مکان میں آپ

مدفون ہوئے ہیں، اس میں انہوں نے کئی ہزار بار قرآن شریف ختم کیا تھا۔

مادفن ہوئے ہیں، اس میں انہوں نے کئی ہزار بار قرآن شریف ختم کیا تھا۔
مادفن ہوئے ہیں، اس میں انہوں نے کئی ہزار بار قرآن شریف ختم کیا تھا۔
مادفن ہوئے ہیں، اس میں انہوں نے کئی ہزار بار قرآن شریف ختم کیا تھا۔

آپ نے پچیس حج کئے، اعلیٰ درجہ کی دیانتداری کے ساتھ تجارت

آپ نے پچیس حج کئے، اعلیٰ درجہ کی دیانتداری کے ساتھ تجارت
آپ نے پچیس حج کئے، اعلیٰ درجہ کی دیانتداری کے ساتھ تجارت
آپ نے پچیس حج کئے، اعلیٰ درجہ کی دیانتداری کے ساتھ تجارت

بھی کرتے تھے۔ حق بات کہنے میں آپ کبھی دریغ نہ فرماتے تھے۔

بھی کرتے تھے۔ حق بات کہنے میں آپ کبھی دریغ نہ فرماتے تھے۔
بھی کرتے تھے۔ حق بات کہنے میں آپ کبھی دریغ نہ فرماتے تھے۔
بھی کرتے تھے۔ حق بات کہنے میں آپ کبھی دریغ نہ فرماتے تھے۔

اللہ تعالیٰ نے آپ کو دولت بھی بخشی تھی۔ اور طبیعت میں سخاوت اور فیاضی بھی۔

اللہ تعالیٰ نے آپ کو دولت بھی بخشی تھی۔ اور طبیعت میں سخاوت اور فیاضی بھی۔
اللہ تعالیٰ نے آپ کو دولت بھی بخشی تھی۔ اور طبیعت میں سخاوت اور فیاضی بھی۔
اللہ تعالیٰ نے آپ کو دولت بھی بخشی تھی۔ اور طبیعت میں سخاوت اور فیاضی بھی۔

ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ آپ کی سخاوت کا شہرہ سنکر ایک شخص کچھ

ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ آپ کی سخاوت کا شہرہ سنکر ایک شخص کچھ
ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ آپ کی سخاوت کا شہرہ سنکر ایک شخص کچھ
ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ آپ کی سخاوت کا شہرہ سنکر ایک شخص کچھ

مانگنے کی عرض سے آیا۔ آپ کا دروازہ بند تھا۔ اس نے باہر سے سنا کہ

مانگنے کی عرض سے آیا۔ آپ کا دروازہ بند تھا۔ اس نے باہر سے سنا کہ
مانگنے کی عرض سے آیا۔ آپ کا دروازہ بند تھا۔ اس نے باہر سے سنا کہ
مانگنے کی عرض سے آیا۔ آپ کا دروازہ بند تھا۔ اس نے باہر سے سنا کہ

آپ اپنی بیوی سے فرما رہے تھے کہ تم نے چراغ کی بتی کیوں پھینک دی؟

آپ آپنی بیوی سے فرما رہے تھے کہ تم نے چراغ کی بتی کیوں پھینک دی؟

آپ آپنی بیوی سے فرما رہے تھے کہ تم نے چراغ کی بتی کیوں پھینک دی؟

یہ فضول خرچی ہے۔ یہ سنکر وہ سوچنے لگا کہ ایسے آدمی سے

یہ فضول خرچی ہے۔ یہ سنکر وہ سوچنے لگا کہ ایسے آدمی سے
 ایسے آدمی سے
 ایسے آدمی سے

کچھ ملنے کی کیا امید ہو سکتی ہے جو ذرا سی بتی پر بیوی سے جھگڑے؟

کچھ ملنے کی کیا امید ہو سکتی ہے جو ذرا سی بتی پر بیوی سے جھگڑے؟
 کچھ ملنے کی کیا امید ہو سکتی ہے جو ذرا سی بتی پر بیوی سے جھگڑے؟

وہ یہی سوچ رہا تھا کہ امام صاحب نے دروازہ کھولا اور مقصد پوچھا۔

وہ یہی سوچ رہا تھا کہ امام صاحب نے دروازہ کھولا اور مقصد پوچھا۔
 وہ یہی سوچ رہا تھا کہ امام صاحب نے دروازہ کھولا اور مقصد پوچھا۔

اس نے کچھ روپیہ کی ضرورت ظاہر کی۔ آپ نے فوراً سو۱۰۰ درہم کی

اس نے کچھ روپیہ کی ضرورت ظاہر کی۔ آپ نے فوراً سو۱۰۰ درہم کی
 اس نے کچھ روپیہ کی ضرورت ظاہر کی۔ آپ نے فوراً سو۱۰۰ درہم کی

ایک تھیلی اس کے حوالے کر دی۔ وہ حیران رہ گیا اور پوچھا کہ حضرت

ایک تھیلی اس کے حوالے کر دی۔ وہ حیران رہ گیا اور پوچھا کہ حضرت
 ایک تھیلی اس کے حوالے کر دی۔ وہ حیران رہ گیا اور پوچھا کہ حضرت

آپ ایک ذرا سی بتی ضائع ہونے پر جھگڑ رہے تھے، لیکن یہ سو درہم کی

آپ ایک ذرا سی بتی ضائع ہونے پر جھگڑ رہے تھے، لیکن یہ سو درہم کی
 آپ ایک ذرا سی بتی ضائع ہونے پر جھگڑ رہے تھے، لیکن یہ سو درہم کی

تھیلی بے جھگ مجھے عنایت فرمادی۔ آپ نے فرمایا کہ سخاوت اور چیز ہے

تھیلی بے جھگ مجھے عنایت فرمادی۔ آپ نے فرمایا کہ سخاوت اور چیز ہے
 تھیلی بے جھگ مجھے عنایت فرمادی۔ آپ نے فرمایا کہ سخاوت اور چیز ہے
 تھیلی بے جھگ مجھے عنایت فرمادی۔ آپ نے فرمایا کہ سخاوت اور چیز ہے

اور فضول خرچی اور چیز۔ ایک کے لئے اسلام نے اجازت دی ہے اور

اور فضول خرچی اور چیز۔ ایک کے لئے اسلام نے اجازت دی ہے اور
 اور فضول خرچی اور چیز۔ ایک کے لئے اسلام نے اجازت دی ہے اور
 اور فضول خرچی اور چیز۔ ایک کے لئے اسلام نے اجازت دی ہے اور

دوسری سے منع کیا ہے۔ امام مالکؒ آپ کے ہم عصر تھے اور امام شافعی اور امام

دوسری سے منع کیا ہے۔ امام مالکؒ آپ کے ہم عصر تھے اور امام شافعی اور امام
 دوسری سے منع کیا ہے۔ امام مالکؒ آپ کے ہم عصر تھے اور امام شافعی اور امام
 دوسری سے منع کیا ہے۔ امام مالکؒ آپ کے ہم عصر تھے اور امام شافعی اور امام

احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ آپ کے شاگردوں کے شاگرد تھے۔ رحمہ اللہ تعالیٰ۔

احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ آپ کے شاگردوں کے شاگرد تھے۔ رحمہ اللہ تعالیٰ۔
 احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ آپ کے شاگردوں کے شاگرد تھے۔ رحمہ اللہ تعالیٰ۔
 احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ آپ کے شاگردوں کے شاگرد تھے۔ رحمہ اللہ تعالیٰ۔

مسلم بچوں کا گیت

مسلم بچوں کا گیت

مسلم بچوں کا گیت

ہم مسلم بچے، مسلم بچے، مسلم بچے ہیں + ہم بات کے سچے، بات کے سچے ہیں

ہم مسلم بچے، مسلم بچے، مسلم بچے ہیں + ہم بات کے سچے، بات کے سچے ہیں
 ہم مسلم بچے، مسلم بچے، مسلم بچے ہیں + ہم بات کے سچے، بات کے سچے ہیں
 ہم مسلم بچے، مسلم بچے، مسلم بچے ہیں + ہم بات کے سچے، بات کے سچے ہیں

ہم کوہ سے بھی ٹکراتے ہیں + ہم شیر سے بھی لڑ جاتے ہیں

ہم کوہ سے بھی ٹکراتے ہیں + ہم شیر سے بھی لڑ جاتے ہیں

ہم کوہ سے بھی ٹکراتے ہیں + ہم شیر سے بھی لڑ جاتے ہیں

وہ پوری ہو کر رہتی ہے + جس بات پہ ہم آڑ جاتے ہیں

وہ پوری ہو کر رہتی ہے + جس بات پہ ہم آڑ جاتے ہیں
وہ پوری ہو کر رہتی ہے + جس بات پہ ہم آڑ جاتے ہیں
وہ پوری ہو کر رہتی ہے + جس بات پہ ہم آڑ جاتے ہیں

دکھ درد میں سب کے کام آنا + خدمت کرنا، خدمت کرنا

دکھ درد میں سب کے کام آنا + خدمت کرنا، خدمت کرنا
دکھ درد میں سب کے کام آنا + خدمت کرنا، خدمت کرنا
دکھ درد میں سب کے کام آنا + خدمت کرنا، خدمت کرنا

ہے کام ہمارا سب کی خاطر + خوش ہو ہو کر دکھ بھرنا

ہے کام ہمارا سب کی خاطر + خوش ہو ہو کر دکھ بھرنا
ہے کام ہمارا سب کی خاطر + خوش ہو ہو کر دکھ بھرنا
ہے کام ہمارا سب کی خاطر + خوش ہو ہو کر دکھ بھرنا

سختی سے نہیں گھبراتے ہم + محنت سے نہیں کتراتے ہم

سختی سے نہیں گھبراتے ہم + محنت سے نہیں کتراتے ہم
سختی سے نہیں گھبراتے ہم + محنت سے نہیں کتراتے ہم
سختی سے نہیں گھبراتے ہم + محنت سے نہیں کتراتے ہم

دولت پہ نہیں اتراتے ہم + ہیں کام میں راحت پاتے ہم

دولت پہ نہیں اتراتے ہم + ہیں کام میں راحت پاتے ہم
دولت پہ نہیں اتراتے ہم + ہیں کام میں راحت پاتے ہم
دولت پہ نہیں اتراتے ہم + ہیں کام میں راحت پاتے ہم

ہم مسلم ہیں، ہم مسلم ہیں + اسلام کے ہم شیدائی ہیں

ہم مسلم ہیں، ہم مسلم ہیں + اسلام کے ہم شیدائی ہیں
ہم مسلم ہیں، ہم مسلم ہیں + اسلام کے ہم شیدائی ہیں
ہم مسلم ہیں، ہم مسلم ہیں + اسلام کے ہم شیدائی ہیں

کچھ فرق نہیں ہیں ہم میں + آپس میں بھائی بھائی ہیں

کچھ فرق نہیں ہیں ہم میں + آپس میں بھائی بھائی ہیں
کچھ فرق نہیں ہیں ہم میں + آپس میں بھائی بھائی ہیں
کچھ فرق نہیں ہیں ہم میں + آپس میں بھائی بھائی ہیں

مسلم بیچی کا گیت!

موسلمیم بائچھ کا گیت

موسلمان مےدےدر گان

حکم خدا کو اپنا رہبر بناؤں گی میں + راہ نبی پہ چل کر خوش ہو کے آؤنگی میں

حکمے خوادا کو اپنا راہبر بناؤگی مای + راہے نبی پہ چل کار خوش حکے آو گی مای
آمی آلالاھر حکومکے نیج پتھپردارک باناب + آمی نبی راسٹای چلے خوشی ہئے থাকی |

خلق پمیری کی مشعل جلاؤنگی میں + اس روشنی سے جگ کو پھر جگمگاؤنگی میں

خولکے پیرگامری کی ماشال جلالاؤگی مای + ایس روشنی ہے جگ کوفر جگمگاؤسی مای
نبی چریتےرے پردیپ جلالاب آمی + اے رشی دھارا پٹھیبیکے پونرای آلالوکیت کراب آمی

بتلاؤں کیا ابھی سے دنیا میں کیا بنوں گی + میں مومنہ بنوں گی، میں مسلمہ بنوں گی

باتلاو کیا آبتی ہے دنایا مے کیا بنوگی + مای مومنا بنوگی مای موسلمیما بنوگی
بلب کی، اখন تھکے دنیای آمی کی ہب + آمی مومنا ہب، آمی موسلمان ہب |

جو کام نیک ہوگا اس میں لگی رہوں گی + جو بات ٹھیک ہوگی میں تو وہی کہوں گی

جو کام نیک لگا اوسمے لایا راہو گی + جو بات ٹیک لگی مای تو اھی کالھ گی
یے کاج نیک ہبے، آمی تاتے لےگے থাকب + یے کٹھا سٹیک ہبے آمی تو سٹای بلب

اسلام کا نمونہ میں اس جہاں میں ہوں گی + اس راہ میں جو سختی آئے گی وہ سہوں گی

ایسلام کا نمونا مای ایس جالامے لگی + ایس راہ مے جو سختی آئے گی اھ ساھ گی
اے جگتے آمی ایسلامےرے آادارک ہب + اے راسٹای یٹو کٹھ کٹھارٹا آاسبے تا سھ کراب |

بتلاؤں کیا ابھی سے دنیا میں کیا بنوں گی + میں مومنہ بنوں گی، میں مسلمہ بنوں گی

کاتلاو کیا آبتی ہے دنایا مے کیا بنوگی + مای مومنا بنوگی مای موسلمیما بنوگی
بلب کی؟ آمی دنیای کی ہب؟ + آمی مومنا ہب، آمی موسلمان ہب |

تمت

سماپت